





# TRIXIG




Design and Quality  
IKEA of Sweden


**1**




**2**



**3**



**4**



<b>English</b>	<b>Original instructions</b>	<b>5</b>
<b>Español</b>	<b>Instrucciones originales</b>	<b>13</b>
<b>Portugues</b>	<b>Instruções originais</b>	<b>21</b>
<b>中文</b>	<b>最初说明</b>	<b>29</b>
<b>繁中</b>	<b>原使用說明</b>	<b>38</b>
<b>한국어</b>	<b>설명서 원문</b>	<b>46</b>
<b>日本語</b>	<b>説明書の原文</b>	<b>54</b>
<b>Bahasa Indonesia</b>	<b>Instruksi asli</b>	<b>62</b>
<b>Bahasa Malaysia</b>	<b>Arahan asal</b>	<b>71</b>
<b>عربی</b>	<b>التعليمات الأصلية</b>	<b>80</b>
<b>ไทย</b>	<b>คำแนะนำการใช้งาน</b>	<b>87</b>

# English

## TRIXIG screwdriver/drill Li-ion 12V

### TECHNICAL SPECIFICATIONS - SCREWDRIVER/DRILL

**Model:** TRIXIG

**Type:** P2202

**Nominal voltage:** 10.8 Vdc

**Rated voltage** 12.0 Vdc

**Battery type:** 1.5 Ah Lithium-Ion

**Charging time:**

If you use 5.0V 1.0A charge current – charging time < 360 min

If you use 5.0V 2.0A charge current – charging time < 210 min

If you use 5.0V 3.0A charge current – charging time < 150 min

**Chuck capacity:** 0.8 - 10 mm (1/32"-3/8")

**Adjustable torque:** 19 + drilling

**Max. hard torque:** approx. 16 Nm

**Max. rpm (no-load speed):** 900/min

**Holder for screwdriver bits:** 6.35 mm (1/4")

**Weight:** approx. 1.035 kg (2.282 lbs) (drill+battery pack only)

### Vibration (according to EN 62841-1, EN 62841-2-1.:

Drilling into metal

$a_{h,D} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

### Noise (according to EN 62841-1.:

Noise pressure level  $L_{PA} = 72 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{PA} = 5 \text{ dB (A)}$

Noise power level  $L_{WA} = 80 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{WA} = 5 \text{ dB (A)}$

### Technical data

**Type:** ICB1 10.8-16-USBC-P1

**Capacity:** 1.5Ah Lithium-Ion, 16.2Wh

**Rechargeable Li-Ion battery cell inside.**

(Three INR19/66 Li-ion cells connected to a group in series)

### INDOOR USE ONLY.

### Recommended charging ratings:

5.0 Vdc / 1.0-3.0A (type C), charging temperature 0-50°C

### Product features

The numbering of the product features shown refers to the illustration of the screwdriver/drill on the graphic page.

1. Keyless chuck
2. Torque regulator
3. Infinitely variable speed control/trigger
4. Rotational direction switch
5. LED work light
6. Battery pack
7. Front sleeve
8. Magnetic bit holder

### NOTE!

USB-C cable and USB charger are not included.

There is an additional storage compartment inside the screwdriver/drill's box for a supplementary TRIXIG battery pack.

### AREAS OF USE

This cordless screwdriver/drill may be used for drilling in wood, plastic and soft metal materials, and for tightening/loosening screws.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

### General safety instructions for power tools



**WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool.** Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

### Save all warnings and instructions for future reference

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### Work area safety

- Keep work area clean and well lit.** Cluttered and dark areas invite accidents.
- Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gasses or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### Electrical safety

- Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep the cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### Personal safety

- Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
- Prevent unintentional starting:** Ensure that the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or plugging in power tools that have the switch on invites accidents.

- d. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- e. **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- f. **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- g. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of these devices can reduce dust related hazards.
- h. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

#### **Power tool use and care**

- a. **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- b. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- c. **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- d. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- e. **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.** If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- f. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- g. **Use the power tool, accessories and tool bits etc, in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of power tool, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- h. **Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.

#### **Battery tool use and care**

- a. **Recharge only with the charger specified by the manufacturer.** A charger that is suitable for one type of battery pack may create a risk of fire when used with another battery pack.
- b. **Use power tools only with specifically designated battery packs.** Use of any other battery packs may create a risk of injury and fire.
- c. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paperclips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.
- d. **Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery; avoid contact.** If contact accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.
- e. **Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified.** Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour, resulting in fire, explosion or risk of injury.
- f. **Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperatures.** Exposure to fire or a temperature above 130 °C may cause an explosion.
- g. **Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions.** Charging improperly or at temperatures outside the specified range may damage the battery and increase the risk of fire.

## **Service**

- a. **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacements parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- b. **Never service damaged battery packs.** Service of battery packs should only be performed by the manufacturer or authorised service providers.

## **MACHINE-SPECIFIC SAFETY INSTRUCTION**

### **Safety warnings for drills and screwdrivers**

#### **1. Safety instructions for all operations**

- a. **Wear ear protectors when impact drilling.** Exposure to noise can cause hearing loss.
- b. **Hold the power tool by the insulated gripping surfaces when performing an operation where the cutting accessory or fasteners may contact hidden wiring.** The cutting accessory or fasteners contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool conductive and could give the operator an electric shock.

#### **2. Safety instructions when using long drill bits**

- a. **Never operate at a higher speed than the maximum speed rating of the drill bit.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- b. **Always start drilling at low speed and with the bit tip in contact with the workpiece.** At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without contacting the workpiece, resulting in personal injury.
- c. **Apply pressure only in direct line with the bit and do not apply excessive pressure.** Bits can bend causing breakage or loss of control, resulting in personal injury.

### **Use appropriate detectors to determine if utility lines are hidden in the work area or call your local utility company for assistance.**

Contact with electric lines can lead to fire and electric shock. Damaging a gas line can lead to explosion. Penetrating a water line causes property damage or may cause an electric shock.

**Switch off the power tool immediately when the tool becomes blocked or stuck.** Be prepared for high reaction torque that can cause kickback. The tool becomes blocked when:

- the power tool is subjected to overload
- or it becomes wedged in the workpiece.

**Hold the machine with a firm grip.** High reaction torque can briefly occur while driving in and loosening screws.

**Secure the workpiece.** A workpiece clamped with clamping devices or in a vice is held more secure than by hand.

**Keep your workplace clean.** Blends of materials are particularly dangerous. Dust from light alloys can burn or explode.

**Always wait until the machine has come to a complete stop before placing it down.** The tool insert can jam and lead to loss of control over the power tool.

**Avoid unintentional switching on.** Ensure the trigger is in the off position before inserting battery pack. Carrying the power tool with your finger on the trigger or inserting the battery pack into power tools that have the switch on invites accidents.

## Safety Warnings for battery chargers



For indoor use only.

**Keep the battery charger away from rain or moisture.** Penetration of water in the battery charger increases the risk of an electric shock.

**Do not charge other batteries.** The battery charger is suitable only for charging the batteries that were supplied with your power tool. Otherwise there is danger of fire and explosion.

**Keep the battery charger clean.** Contamination can lead to danger of an electric shock.

**Before each use, check the battery charger, cable and plug. If damage is detected, do not use the battery charger. Never open the battery charger yourself. Have repairs performed only by a qualified technician.** Damaged battery chargers, cables and plugs increase the risk of an electric shock.

**Do not operate the battery charger on easily inflammable surfaces (e. g., paper, textiles, etc.) or surroundings.** The heating of the battery charger during the charging process can pose a fire hazard.

## VIBRATION AND NOISE INFORMATION

### Vibration and noise level

The vibration and noise emission level stated in this instruction manual has been measured in accordance with a standardised test in EN 62841. It may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration and noise when using the tool for the applications mentioned in this manual. However, using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level.

An estimation of the level of exposure to vibration and noise should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not being used, as this may significantly reduce the exposure level over the total working period. Protect yourself against the effects of vibration and noise by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm and organising your work.

### Other risks

**Even when the power tool is used as prescribed, it is not possible to eliminate all other risk factors. The following hazards may arise in connection with the power tool's construction and design:**



Damage to lungs if an effective dust mask is not worn.



Damage to hearing if effective hearing protection is not worn.



Damages to health resulting from vibrations if the power tool is being used over longer period of time or not properly handled and maintained.



**WARNING!** This power tool produces an electromagnetic field during operation. Under some circumstances, this field may interfere with active or passive medical implants. To reduce the risk of serious or fatal injury, we recommend persons with medical implants to consult their physician and the medical implant manufacturer before operating this machine.

## ASSEMBLY

Before any work on the machine (e.g. maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set rotational direction switch to the centre position. Unintentional actuation of the trigger can lead to injuries.

### Charging the screwdriver/drill

First read the safety instructions and then follow the charging instructions.

Connect USB-C cable end to USB-C port on the battery pack (Pic. 2) (A). Connect the other USB cable end to a USB-charger or USB-outlet that can provide sufficient power to charge the screwdriver/drill. When the battery pack is connected to the power supply, the diodes on the back of the battery pack light up to indicate the charging status:

- Pulsating light - charging in progress
- Steady light for two minutes/no light - charging completed

Make sure that there are no knots or sharp bends in the cable. After the battery pack is fully charged and the battery pack remains connected to the power supply, the diodes will stay lit for two minutes and then turn off. When the charging is completed, disconnect the charging cable and then slide the battery pack into the holder of the screwdriver/drill. The screwdriver/drill is now ready to use. When the screwdriver/drill is not in use, disconnect the battery pack from the screwdriver/drill and store it in a suitable place. Under normal conditions of use the screwdriver can be recharged several hundred times.

**ATTENTION!** The recharging process generates heat in the battery. It is not advisable to recharge the battery in temperatures below freezing. The battery will gradually lose its charge over a period of time, even if the tool is not used.

### Checking the power status on battery pack

You can check the battery pack's power status by briefly pushing on the button located on the back of the battery pack. The diodes will light up to indicate the remaining power status:

- 3 diodes light up - full charge
- 2 diodes light up - medium charge
- 1 diode lights up - low charge

Shortly after, the diodes will turn off.

**Note:** The battery that is supplied with the screwdriver/drill has been charged for test purposes only and must be fully recharged before first time use.

TRIXIG screwdriver/drill and TRIXIG battery pack have been designed to be used together.

**NEVER** use this battery pack to power cordless tools from other manufacturers.

The lithium-ion battery is protected against deep discharging by the "Electronic Cell Protection (ECP)". When the battery is empty, the machine is switched off by means of a protective circuit: The inserted tool no longer rotates.



**WARNING** Do not continue to press the On/Off switch after the machine has been automatically switched off. The battery can be damaged.



**WARNING!** Recharge the battery on a non-flammable surface. Do not recharge the battery for more than eight hours.

## INSTRUCTIONS FOR USE

### Using the tool

**Note:** Sparks may be visible through the slots in the motor housing during operation. The sparks are a normal reaction of the motor when in use and are created by the components inside the motor moving against each other. The function of the power tool is not affected by this. We do however recommend not to use the power tool near any flammable liquids, gases or dust, which the sparks may ignite.

### Keyless chuck

Your drill has a keyless chuck so that you can simply tighten or release screwdriver/drill bits. Hold the front sleeve and push on the speed control/trigger to open/close the chuck.

### Mounting bits and drills

Before any work on the machine (e.g. maintenance, tool change, etc.) as well as during transport and storage, set rotational direction switch to the centre position. Unintentional actuation of the trigger can lead to injuries.

Rotate the front sleeve to adjust the chuck until the opening is slightly larger than the shaft of the screwdriver/drill bit that you wish to use. Insert the screwdriver/drill bit into the chuck. Tighten the chuck against the screwdriver/drill as described above (Keyless chuck).

### Regulating the shaft speed

It is possible to regulate both shaft speeds from zero to maximum by altering the pressure applied to the trigger. This enables you to choose the optimum speed for the task you are working on.

### Reversing the direction of rotation

You can reverse the direction of rotation by using the rotational direction switch (4). To lock the trigger, set the selector to the mid position between the right and left options.

### Adjusting the tightening moment

Turn the torque regulator (2) to the desired position. Settings 1-19 are used for tightening/loosening screws (the higher the value, the greater the tightening moment). Select the drill symbol before using the tool for drilling.

### Magnetic bit holder

You can place the bits and drills you are currently using on the magnetic bit holder (8) on top of your screwdriver/drill to keep them close at hand while you are working.

### LED work light

The screwdriver has a built-in LED work light to illuminate the work area. The LED work lights up every time the trigger switch is squeezed and then turns off when the trigger switch is released.

### **WARNING: RISK OF TRAPPING**

Do not hold the front sleeve of the chuck with one hand at the same time as you open or close the jaws of the chuck with the help of the screwdriver/drill's motor.

### Maintenance and cleaning

Keep the screwdriver/drill clean and dry at all times to ensure proper and safe operation. Wipe off any debris using a soft cloth moistened with water. Do not use any cleaning agents or solvents.

For safe and proper working, always keep the machine and ventilation slots clean.

This product is intended for domestic use in the home, not for commercial or qualified measurements carried out by professionals.

**Keep this manual for future use.**

**Manufacturer: IKEA of Sweden AB**

**Address: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



Batteries and rechargeable batteries are not household waste! As a consumer, you are required by law to dispose of all batteries and accumulators, whether they contain harmful substances\* or not, at a collection point in your municipality/neighbourhood or via a commercial entity offering battery disposal so that they can be disposed of in an environmentally sound manner.

\* marked with: Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead



The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment. For more information, please contact your IKEA store.

# Español

Taladro/atornillador TRIXIG, ion-litio, 12 V

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: TALADRO/ATORNILLADOR

**Modelo:** TRIXIG

**Tipo:** P2202

**Tensión nominal:** 10.8 Vcc

**Tensión nominal:** 12.0 Vcc

**Tipo de batería:** 1.5 Ah de iones de litio

**Duración de la carga:**

Con una corriente de 5.0 V, 1.0 A: duración de la carga <360 min

Con una corriente de 5.0 V, 2.0 A: duración de la carga <210 min

Con una corriente de 5.0 V, 3.0 A: duración de la carga <150 min

**Capacidad del portabrocas:** 0.8-10 mm

**Par ajustable:** 19 + perforación

**Par máximo:** aprox. 16 Nm

**Velocidad máx. (velocidad de rotación en vacío):** 900/min

**Soporte para puntas:** 6.35 mm (1/4")

**Peso:** aprox. 1.035 kg (2.282 lbs) (taladro/atornillador+batería solamente)

## Vibración (según las normas EN 62841-1, EN 62841-2-1.):

Perforación de metal

$a_{h,D} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

## Ruido (según la norma EN 62841-1.):

Nivel de presión acústica  $L_{PA} = 72 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{PA} = 5 \text{ dB (A)}$

Nivel de presión acústica  $L_{WA} = 80 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{WA} = 5 \text{ dB (A)}$

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BATERÍA

**Tipo:** ICB1 10.8-16-USBC-P1

**Capacidad:** 1.5 Ah de iones de litio, 16.2 Wh

**Batería recargable de iones de litio incluida.**

(Tres celdas de iones de litio INR19/66 conectadas a un grupo en serie)

## SOLO PARA INTERIOR.

### Clasificaciones de carga recomendadas:

5.0 V c.c./ 1.0-3.0 A (tipo C), temperatura de carga 0-50 °C

## Componentes del producto

La numeración de los componentes del taladro/atornillador que aparece se refiere a la ilustración de la página de información gráfica.

1. Portabrocas sin llave
2. Regulador de par
3. Interruptor/control de variación de velocidad
4. Selector de sentido de giro
5. Luz LED
6. Batería
7. Casquillo delantero
8. Soporte magnético

## NOTA:

El cable USB-C y el cargador USB no están incluidos. Hay un compartimento adicional dentro de la caja del taladro/atornillador para una batería TRIXIG adicional.

## ÁREAS DE USO

Este destornillador/taladro sin cable ha sido diseñado para perforar madera, plástico y metales blandos, y para apretar/soltar tornillos.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con una capacidad física, sensorial o mental reducida, o a quienes falte experiencia y conocimientos, a no ser que reciban supervisión e instrucciones sobre el uso de esta herramienta de una persona

responsable de su seguridad.

Es necesaria la supervisión de un adulto para asegurarse de que los niños no juegan con el aparato.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD GENERALES

### Instrucciones de seguridad generales



**¡ADVERTENCIA! Lea todas las advertencias de seguridad, instrucciones, ilustraciones y especificaciones proporcionadas junto con esta herramienta eléctrica.** El incumplimiento de las instrucciones enumeradas a continuación puede provocar descargas eléctricas, incendio y/o lesiones graves.

**Guarde todas las advertencias e instrucciones para consulta futura.**

El término "herramienta eléctrica" en las advertencias hace referencia a la herramienta eléctrica que funciona conectada a la red eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con batería (inalámbrica)..

#### Seguridad eléctrica

- a. **El enchufe de la herramienta eléctrica debe encajar en la toma de corriente. Nunca modifiques el enchufe. No utilices adaptadores en herramientas eléctricas con toma de tierra.** La utilización de enchufes sin alterar y de tomas de corrientes adaptadas reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- b. **Evita tocar con el cuerpo superficies con toma de tierra como tuberías, radiadores, hornos y frigoríficos.** El riesgo de descarga eléctrica aumenta cuando el cuerpo está en contacto con la tierra.
- c. **No expongas las herramientas eléctricas a la lluvia o a la humedad.** Si el agua penetra en la herramienta eléctrica, aumenta el riesgo de descarga eléctrica.
- d. **Utiliza correctamente el cable. Nunca uses el cable para transportar, tirar o desenchufar la herramienta.** Aleja el cable del calor, del aceite, de partes móviles o punzantes. Los cables dañados o enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
- e. **Cuando utilices la herramienta eléctrica en el exterior, usa cables de prolongación aptos para exteriores.** Utilizando cables aptos para uso en exteriores, se reduce el riesgo de descarga eléctrica.
- f. **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de dispositivo de corriente residual (DCR).** El uso de un DCR reduce el riesgo de descarga eléctrica.

#### Seguridad personal

- a. **Cuando utilices herramientas eléctricas, presta siempre la máxima atención, concéntrate en las operaciones que estás efectuando y aplica el sentido común. No utilices herramientas eléctricas cuando estés cansado, bajos los efectos de las drogas, del alcohol o de medicamentos.** Un momento de distracción durante la utilización de la herramienta, puede causar graves daños personales.
- b. **Utiliza equipos de protección personal.** Ponte siempre protección en los ojos. La utilización de equipos de protección como máscara para el polvo, calzado de seguridad antideslizante, casco o protección para los oídos en las condiciones adecuadas, reduce el riesgo de eventuales daños personales.
- c. **Evita la puesta en marcha accidental. Comprueba que el interruptor esté desconectado antes de conectarla a la toma de corriente y/o acumulador.** Si trasportas la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor o conectas la herramienta cuando el interruptor está en la posición de conexión, es posible que se produzcan accidentes.
- d. **Antes de encender la herramienta,** quita cualquier llave de regulación ya que podría causar daños, si permanece unida a alguna parte rotatoria de la herramienta.

- e. **No te balancees.** Mantén siempre una postura y equilibrio correctos, porque te permite controlar mejor la herramienta en situaciones imprevistas.
- f. **Viste una indumentaria adecuada. No lleves joyas ni prendas demasiado amplias.** Mantén el cabello, los guantes y la ropa alejada de las partes en movimiento. Las prendas amplias, las joyas y el cabello podrían engancharse en las partes móviles.
- g. **Si se proporcionan dispositivos para conexión y aparatos para extracción y recogida del polvo, comprueba que están conectados y se utilizan correctamente.** El uso de estos dispositivos reduce el riesgo de los daños causados por el polvo.
- h. **Aunque utilices a menudo este tipo de herramientas, manipúlala con cuidado y respeta las normas de seguridad.** Un mal uso o un instante de falta de atención pueden provocar heridas graves en una milésima de segundo.

#### **Uso y mantenimiento de la herramienta**

- a. **No fuerces las herramientas eléctricas. Utiliza la herramienta adecuada para cada tarea.** La herramienta eléctrica correcta te permite trabajar de forma más eficiente y segura.
- b. **No utilices la herramienta eléctrica si el interruptor no se enciende y apaga.** Cualquier herramienta que el interruptor no controle es peligrosa y debe repararse.
- c. **Desenchufa el aparato y/o desmonta el acumulador antes de regular la herramienta, cambiar un accesorio o guardar el dispositivo.** Estas medidas de seguridad preventivas reducen el riesgo de puesta en marcha accidental del aparato.
- d. **Guarda las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permitas que utilicen estos dispositivos personas que desconocen las herramientas y su funcionamiento.** Una herramienta eléctrica es un peligro en manos de personas inexpertas.
- e. **Cuida la herramienta eléctrica con esmero. Controla si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica.** Haz reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica. Muchos accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- f. **Mantén los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- g. **Utiliza la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.
- h. **Mantén los mangos y las superficies de agarre bien secas, limpias y sin grasa ni aceite.** Las superficies de agarre y los mangos resbaladizos no permiten la manipulación segura y el buen control de la herramienta en caso de situaciones imprevistas.

#### **Uso y mantenimiento de los acumuladores**

- a. **Cargar solamente los acumuladores con el cargador especificado por el fabricante.** Existe riesgo de incendio al intentar cargar acumuladores de un tipo diferente al previsto para el cargador.
- b. **Utiliza solo los acumuladores diseñados específicamente para la herramienta eléctrica.** El uso de otro tipo de acumuladores puede provocar daños e incendios.
- c. **Si no utilizas el acumulador, guárdalo separado de clips, monedas, llaves, tornillos, clavos u otros objetos metálicos que puedan crear la conexión entre terminales.** El cortocircuito de los contactos del acumulador puede causar quemaduras o un incendio.
- d. **El uso inadecuado del acumulador puede provocar fugas de líquido. Evita el contacto con el mismo. En caso de contacto accidental enjuaga con agua limpia. Si el líquido entra en contacto con los ojos, recurre inmediatamente a un médico.** El líquido del acumulador puede provocar quemaduras e irritación.
- e. **No utilice una batería o herramienta que esté dañada o haya sido modificada.** Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible, que provoque incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- f. **No exponga la batería o herramienta al fuego o a temperaturas excesivas.** La exposición al fuego o a una temperatura superior a 130 °C puede provocar una explosión.
- g. **Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería o la herramienta fuera del rango de temperatura especificado en las instrucciones.** La carga incorrecta o a temperaturas fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

## Servicio

- a. **Haz reparar la herramienta eléctrica sólo por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.**  
Así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.
- b. **Nunca repare baterías dañadas.** La reparación de baterías solo debe ser realizada por el fabricante o los proveedores de servicios autorizados.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS DEL APARATO

### Seguridad para taladros/destornilladores

#### 1. Instrucciones de seguridad para todas las operaciones

- a. **Utilice protectores auditivos al perforar.** La exposición a ruidos puede causar pérdida auditiva.
- b. **Sujete la herramienta eléctrica por las superficies de agarre aisladas cuando realice una tarea durante la cual el accesorio de corte o los sujetadores puedan entrar en contacto con cableado oculto.** Si el accesorio de corte o los sujetadores entran en contacto con un cable con corriente, pueden hacer que las partes metálicas expuestas de la herramienta eléctrica sean conductoras y podrían provocar una descarga eléctrica al operario.

#### 2. Instrucciones de seguridad cuando se utilizan brocas largas

- a. **Nunca utilice una velocidad superior a la velocidad máxima nominal de la broca.** A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si se la deja girar libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo que puede provocar lesiones personales.
- b. **Comience siempre a taladrar a baja velocidad y con la punta de la broca en contacto con la pieza de trabajo.** A velocidades más altas, es probable que la broca se doble si se la deja girar libremente sin entrar en contacto con la pieza de trabajo, lo que puede provocar lesiones personales.
- c. **Aplique presión solo en línea directa con la broca y no aplique una presión excesiva.** Las brocas pueden doblarse provocando su rotura o pérdida de control, lo que puede causar lesiones personales.

**Utiliza aparatos de exploración adecuados para detectar conductores o tuberías ocultas, o consulta a las empresas de suministro local. El contacto con conductores eléctricos puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.** Dañar una tubería de gas puede producir una explosión. La perforación de una tubería de agua puede causar daños materiales o una descarga eléctrica.

**Apague inmediatamente la herramienta eléctrica cuando se bloquee o atasque.** Prepárese para un par de reacción elevado que pueda provocar retroceso. La herramienta se bloquea cuando:

- la herramienta eléctrica se somete a sobrecarga
- o se atasca en la pieza de trabajo.

**Asegura la pieza de trabajo.** Una pieza de trabajo fijada con dispositivos de sujeción o en un tornillo de banco se mantiene sujetada de forma mucho más segura que con la mano.

**Mantén limpio el puesto de trabajo.** La mezcla de diversos materiales es especialmente peligrosa. Las aleaciones ligeras en polvo pueden arder o explotar.

**Antes de depositarla,** espera a que se haya detenido por completo la herramienta. El útil puede engancharse y hacerte perder el control sobre la herramienta eléctrica.

**Evita una puesta en marcha fortuita.** Antes de montar el acumulador, comprueba que el interruptor esté en la posición de desconexión. El transporte de la herramienta sujetándola por el interruptor o la inserción del acumulador estando conectada la herramienta puede provocar un accidente.

## Instrucciones de seguridad para cargadores



**Usar únicamente en el interior.**

**No expongas la herramienta eléctrica a la lluvia o humedad.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetra el agua en el cargador.

**No cargues otro tipo de acumuladores.** El cargador es adecuado solo para cargar los acumuladores que se suministran con la herramienta eléctrica. En caso contrario existe el riesgo de provocar un incendio o explosión.

**Mantén limpio el cargador,** ya que la suciedad puede provocar una descarga eléctrica.

**Antes de cada uso, comprueba el cargador, el cable y el enchufe. Si uno de estos elementos no estuviera en buen estado, no utilices el cargador.** Nunca abras el acumulador. Haz reparar la herramienta solo por técnicos cualificados. Los cargadores, cables y enchufes en mal estado aumentan el riesgo de descarga eléctrica.

**No manipules el cargador sobre superficies que se inflamen con facilidad (p. ej. sobre papel, tejido, etc.).** El calor que desprende el cargador durante el proceso de carga puede crear un riesgo de incendio.

## INFORMACIÓN SOBRE VIBRACIONES Y RUIDOS

### Nivel de ruido y vibración

El nivel de emisión de ruido y vibración indicado en este manual de instrucciones se ha medido de conformidad con una prueba estandarizada en EN 62841. Se puede utilizar para comparar una herramienta con otra y como evaluación preliminar de la exposición a vibraciones y ruidos cuando se utiliza la herramienta para las aplicaciones mencionadas en este manual. No obstante, el uso de la herramienta para aplicaciones diferentes, o con accesorios distintos o sometidos a un mantenimiento deficiente, puede aumentar significativamente el nivel de exposición.

Una estimación del nivel de exposición a las vibraciones y al ruido también debe tener en cuenta los momentos en que la herramienta está apagada o cuando está en marcha pero no se utiliza, ya que esto puede reducir significativamente el nivel de exposición durante todo el período de trabajo. Protéjase frente a los efectos de la vibración y el ruido con un buen mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo las manos calientes y organizando bien su trabajo.

### Otros riesgos

**Incluso cuando la herramienta eléctrica se utilice según lo prescrito, no es posible eliminar todos los demás factores de riesgo. Los peligros siguientes pueden presentarse en relación con la fabricación y el diseño de la herramienta eléctrica:**



Daños en los pulmones si no se utiliza una mascarilla eficaz contra el polvo.



Daños auditivos si no se utiliza protección auditiva eficaz.



Daños en la salud como resultado de las vibraciones si la herramienta eléctrica se utiliza durante un periodo de tiempo prolongado o no se manipula y mantiene de manera adecuada.



**¡ADVERTENCIA!** Esta herramienta eléctrica produce un campo electromagnético durante su funcionamiento. En algunas circunstancias, este campo puede interferir con implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el riesgo de lesiones graves o letales, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico y al fabricante del implante médico antes de hacer funcionar esta máquina.

## MONTAJE

Antes de realizar cualquier tarea con la herramienta (mantenimiento, cambio de accesorios, etc.), o en caso de transporte y almacenamiento, coloca el selector de sentido de giro en la posición central. El accionamiento accidental del interruptor puede causar lesiones.

### Carga del taladro/atornillador

Lee primero las instrucciones de seguridad y después sigue las instrucciones de carga.

Conecta el extremo del cable USB-C al puerto USB-C de la batería (Imagen 2) (A). Conecta el otro extremo del cable USB a un cargador USB o a una toma USB con suficiente potencia para cargar el taladro/atornillador. Cuando la batería se conecta a una fuente de alimentación, los diodos de la parte posterior se encenderán para indicar el estado de carga:

- Luz parpadeante: carga en curso.
- Luz fija durante 2 minutos/luz apagada: carga completa.

Asegúrate de que el cable no presenta nudos ni dobleces pronunciados. Si la batería se ha cargado por completo y sigue enchufada a la fuente de alimentación, los diodos se encenderán durante 2 minutos y después se apagarán. Cuando se complete la carga, desconecta el cable e introduce la batería en el soporte del taladro/atornillador. El taladro/atornillador ya está preparado para usarlo. Cuando no lo uses, quita la batería del taladro/atornillador y guárdala en un lugar adecuado. En condiciones normales de utilización, el taladro/atornillador puede cargarse cientos de veces.

**ATENCIÓN:** La batería se calienta durante la recarga. Se desaconseja cargar la batería a temperaturas bajo cero. La batería se descarga progresivamente a lo largo del tiempo, aunque no se utilice la herramienta.

### Comprobación del nivel de carga de la batería

Puedes comprobar el nivel de carga de la batería pulsando brevemente el botón situado en la parte posterior de la batería. Los diodos se encenderán para indicar el nivel de carga restante:

- Se encienden 3 diodos: carga completa
- Se encienden 2 diodos: carga media
- Se enciende 1 diodo: carga baja

Los diodos se apagarán poco después.

**Nota:** La batería que se suministra con el taladro/atornillador se ha cargado parcialmente para poder hacer comprobaciones y se debe cargar por completo antes de usarla.

El taladro/atornillador TRIXIG y la batería TRIXIG se han diseñado para utilizarse conjuntamente.

**NUNCA** uses esta batería con herramientas sin cable de otros fabricantes.

El sistema de protección electrónica de celdas (ECP) evita que la batería de iones de litio se descargue por completo. Cuando la batería se vacía, la herramienta se detiene gracias a un circuito de protección: ningún accesorio insertado puede girar.



**ADVERTENCIA:** No continúes presionando el interruptor de encendido/apagado después de que la herramienta se haya desconectado automáticamente. La batería podría dañarse.



**ADVERTENCIA:** Recarga la batería sobre una superficie no inflamable. No cargues la batería durante más de ocho horas.

## INSTRUCCIONES DE USO

### Uso de la herramienta

**Nota:** se pueden ver chispas por las aberturas de enfriamiento del motor. Es normal que aparezcan chispas con el motor en funcionamiento debido al frotamiento de los componentes en el interior del motor. Esto no afecta a la potencia de la herramienta. Sin embargo, recomendamos no utilizar la herramienta cerca de líquidos inflamables, de gas o polvo que las chispas podrían prender.

### Portabrocas sin llave

El taladro lleva un portabrocas sin llave, que permite apretar o aflojar las puntas o las brocas. Sujeta el casquillo delantero y pulsa el interruptor/control de variación de velocidad para abrir o cerrar el portabrocas.

### Montaje de puntas y brocas

Antes de realizar cualquier tarea con la herramienta (mantenimiento, cambio de accesorios, etc.), o en caso de transporte y almacenamiento, coloca el selector de sentido de giro en la posición central. El accionamiento accidental del interruptor puede causar lesiones.

Gira el casquillo delantero hasta que la abertura del portabrocas sea un poco más grande que el diámetro del vástago de la punta o la broca que deseas utilizar. Inserta la punta o la broca en el portabrocas. Aprieta el portabrocas según lo descrito arriba (portabrocas sin llave).

### Regulación de la velocidad de rotación

Se pueden regular las dos velocidades de rotación de 0 al máximo variando la presión ejercida sobre el interruptor. Esto te permite seleccionar la velocidad adecuada para el trabajo que vas realizar.

### Invertir el sentido de la rotación

Puedes invertir el sentido de la rotación utilizando el selector del sentido de giro (4). Para bloquear el selector, coloca el interruptor en la posición intermedia entre las dos opciones: derecha e izquierda.

### Regulación del par de giro

Gira el regulador del par de giro (2) hasta la posición deseada. Las posiciones que van del 1 al 19 sirven para apretar/aflojar tornillos (cuanto mayor sea la cifra, mayor fuerza de torsión). Selecciona el símbolo del taladro antes de utilizar la herramienta para practicar orificios.

### Soporte magnético

Puedes colocar las puntas y brocas que quieras usar en el soporte magnético (8.) encima del taladro/atornillador para tenerlas a mano cuando estés usando la herramienta.

### Luz LED

El atornillador cuenta con una luz LED integrada para iluminar la zona de trabajo. La luz LED se enciende cada vez que se aprieta el interruptor de encendido y se apaga cuando se suelta.

### ATENCIÓN: RIESGO DE ATRAPAMIENTO

No sujetes la abrazadera del portabrocas con una mano, al mismo tiempo que abres/cierras los dientes del portabrocas con ayuda del motor del destornillador/taladro.

### Mantenimiento y limpieza

Mantén siempre limpio y seco el taladro/atornillador para trabajar de forma segura y eficaz. Límpialo con un paño suave humedecido para eliminar cualquier resto. No utilices detergentes ni disolventes.


Mantén limpia la herramienta y las aberturas de ventilación para trabajar con eficacia y seguridad.

Este producto se ha diseñado para uso doméstico, no para uso comercial ni para realizar mediciones en el ámbito profesional.

**Conserva este manual para futuras consultas.**

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Dirección: Box 702, SE-343 81 Älmhult (SUECIA)**



Las pilas y baterías recargables no son residuos domésticos. Como consumidor, la ley le exige que deseche todas las pilas y acumuladores, tanto si contienen sustancias nocivas\* como si no, en un punto de recogida de su municipio/localidad o a través de una entidad comercial que ofrezca eliminación de baterías, para que puedan eliminarse de manera ambientalmente responsable.

\* marcadas con: Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = plomo



La imagen del cubo de basura tachado indica que el producto no debe formar parte de los residuos habituales del hogar. Se debe reciclar según la normativa local medioambiental de eliminación de residuos. Cuando separas los productos que llevan esta imagen, contribuyes a reducir el volumen de residuos que se incineran o se envían a vertederos y minimizas el impacto negativo sobre la salud y el medio ambiente. Para más información, ponte en contacto con tu tienda IKEA.

# Portuguese

TRIXIG aparatador/berbequim, iões de lítio 12V

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - APARAFUSADORA/BERBEQUIM

**Modelo:** TRIXIG

**Tipo:** P2202

Tensão nominal 10.8 Vcc

**Tensão nominal:** 12.0 Vcc

**Tipo de bateria:** 1.5Ah iões de lítio

### Duração do carregamento:

Se utilizar uma corrente de carregamento de 5.0V 1.0A

- tempo de carregamento < 360 min

Se utilizar uma corrente de carregamento de 5.0V 2.0A

- tempo de carregamento < 210 min

Se utilizar uma corrente de carregamento de 5.0V 3.0A

- tempo de carregamento < 150 min

**Capacidade do mandril:** 0.8 - 10mm

**Rotação ajustável:** 19 + perfuração

**Rotação máx:** aprox. 16 Nm

**Máx. rpm (velocidade em vazio):** 900/min

**Suporte para broca desaparafusadora:** 6.35 mm (1/4").

**Peso:** aprox. 1.035kg (2.282 lbs) (apenas berbequim+bateria).

### Vibração (em conformidade com EN 62841-1, EN 62841-2-1.):

Perfuração de metal

$a_{h,D} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K=1.5 \text{ m/s}^2$

### Ruído (em conformidade com EN 62841-1.

Nível de pressão de ruído  $L_{PA} = 72\text{dB (A)}$ ,  $K_{PA} = 5\text{dB (A)}$

Nível de pressão de ruído  $L_{WA} = 80\text{dB (A)}$ ,  $K_{WA} = 5\text{dB (A)}$

## DADOS TÉCNICOS – BATERIA

**Tipo:** ICBL 10.8-16-USBC-P1

**Capacidade:** 1.5Ah iões de lítio, 16.2Wh

**Pilha recarregável de iões de lítio no interior.**

(Três células de iões de lítio INR19/66 ligadas a um grupo em série)

## APENAS PARA USO NO INTERIOR.

### Classificações de carregamento recomendadas:

5.0V c.c. / 1.0-3.0A (tipo C), temperatura de carregamento 0-50°C

### Características do produto

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da aparatador/berbequim na página ilustrativa.

1. Portabrocas sem chave
2. Regulador de torção
3. Controlo/gatilho de variação de velocidade
4. Comutador Avançar/Retroceder
5. Ponteiro luminoso LED
6. Bateria
7. Parte frontal de travamento
8. Suporte para brocas magnético

### NOTA!

O cabo USB-C e o carregador USB não estão incluídos. Existe um compartimento de arrumação adicional dentro da caixa da aparatador/berbequim para uma bateria TRIXIG suplementar.

### ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Esta aparatador/berbequim sem fios é destinada a furar madeira, plástico e materiais em metal leve e para aparatrar/desaparatrar.

Esta ferramenta eléctrica não deve ser manuseada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência nem conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou tenham sido instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança no que respeita ao manuseamento da ferramenta.

As crianças têm de ser supervisionadas para garantir que não brincam com a ferramenta eléctrica.

## INSTRUÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

### Instruções gerais de segurança



**AVISO!** Leia todas as advertências de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidas com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções abaixo indicadas pode resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

#### Guarde todas as advertências e instruções para referência futura

O termo "ferramenta eléctrica" nos avisos refere-se à sua ferramenta eléctrica com cabo para ligar à rede eléctrica ou à ferramenta eléctrica operada por bateria (sem fios).

#### Segurança da área de trabalho

- Mantenha a área de trabalho arrumada e bem iluminada.** Áreas desorganizadas e mal iluminadas são mais propícias a acidentes.
- Não utilize ferramentas eléctricas em ambientes explosivos, nem na presença de líquidos inflamáveis, gases e pó.** As ferramentas eléctricas produzem faíscas que podem inflamar o pó dos vapores.
- Mantenha as crianças e as pessoas presentes afastadas enquanto utiliza uma ferramenta eléctrica.** As distrações podem fazer com que perca o controlo.

#### Segurança eléctrica

- As fichas de ferramentas eléctricas devem encaixar na tomada. Nunca modifique a ficha.** Não use adaptadores de ficha em ferramentas eléctricas com ligação à terra. As fichas não modificadas e as tomadas correspondentes reduzirão o risco de choque eléctrico.
- Evite o contacto com superfícies com ligação à terra, tais como tubos, radiadores, extensões e frigoríficos.** Existe um aumento do risco de choque eléctrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
- Não exponha ferramentas eléctricas à chuva ou humidade.** A entrada de água na ferramenta aumentará o risco de choque eléctrico.
- Não force o cabo.** Nunca use o cabo para carregar, puxar ou desligar a ferramenta. Mantenha o cabo longe do calor, óleo, extremidades afiadas ou partes móveis. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
- Ao utilizar ferramentas eléctricas ao ar livre, use um cabo de extensão apropriado para uso no exterior.** O uso de um cabo apropriado para áreas exteriores reduz o risco de choque eléctrico.
- Se for imprescindível utilizar a ferramenta eléctrica num local húmido, é necessário ligá-la através de um dispositivo de protecção diferencial residual (RCD).** A utilização de um RCD reduz o risco de choque eléctrico.

#### Segurança pessoal

- Fique atento, observe o que está a fazer e use o bom senso ao utilizar uma ferramenta eléctrica.** Não utilize uma ferramenta eléctrica quando estiver cansado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de desatenção enquanto utiliza uma ferramenta eléctrica pode resultar numa lesão corporal grave.
- Use equipamento de segurança. Use sempre óculos de protecção.** O equipamento de segurança como máscara contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete ou protecção auricular usados em condições apropriadas reduzirão os ferimentos pessoais.

- c. **Evite ligações accidentais.** Verifique se o interruptor está na posição de desligado antes de ligar a ferramenta à electricidade e/ou à bateria, de lhe pegar ou de a transportar. Pegar em ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou ligar à electricidade ferramentas com o interruptor ligado é propício a acidentes.
- d. **Remova qualquer chave de ajuste antes de ligar a ferramenta eléctrica,** já que se estiver ligada a uma parte rotativa da ferramenta pode provocar lesões corporais.
- e. **Não se estique.** Mantenha sempre os pés firmes e o equilíbrio. Isso permite-lhe controlar melhor a ferramenta em situações inesperadas.
- f. **Utilize vestuário adequado.** Não use roupas largas nem jóias. Mantenha o cabelo, roupas e luvas afastados das peças móveis. Roupas largas, jóias ou cabelo comprido podem ficar presos nas peças móveis.
- g. **Se forem fornecidos dispositivos para ligação a instalações de extracção e recolha de pó, garanta que estas estão ligadas e são usadas correctamente.** O uso destes dispositivos pode reduzir os riscos relacionados com o pó.
- h. **A confiança que se ganha após um uso frequente das ferramentas não deve levar a uma utilização negligente nem a ignorar os princípios de segurança.** Um ato desatento pode causar lesões graves numa fração de segundos.

#### **Instruções de utilização e manutenção**

- a. **Não force a ferramenta eléctrica. Use a ferramenta eléctrica correcta para a sua aplicação.** A ferramenta eléctrica correcta fará melhor o trabalho e de forma mais segura para o que foi concebida.
- b. **Não use a ferramenta eléctrica se o interruptor não ligar e desligar.** Qualquer ferramenta eléctrica que não possa ser controlada com o interruptor é perigosa e deve ser reparada.
- c. **Deslique a ficha da tomada e/ou da bateria antes de fazer quaisquer ajustes, trocar acessórios ou guardar ferramentas eléctricas.** Tais medidas de segurança preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta eléctrica accidentalmente.
- d. **Guarde as ferramentas eléctricas fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a mesma ou com estas instruções a utilizem.** As ferramentas eléctricas são perigosas nas mãos de utilizadores inexperientes.
- e. **Faça a manutenção das ferramentas eléctricas.** Verifique se há术alignamento de peças móveis, quebra de peças ou qualquer outra condição que possa afectar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Se estiver danificada, a ferramenta eléctrica deve ser reparada antes de ser usada. Muitos acidentes são causados por ferramentas eléctricas sem manutenção.
- f. **Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas e limpas.** Ferramentas de corte com lâminas afiadas sujeitas a manutenção são menos propensas a dobrar e são mais fáceis de controlar.
- g. **Utilize a ferramenta eléctrica, acessórios, brocas, etc, de acordo com as instruções e da forma pretendida para o determinado tipo de ferramenta, tendo em conta as condições de trabalho e o trabalho a realizar.** A utilização da ferramenta eléctrica para operações diferentes das concebidas pode resultar em situações perigosas.
- h. **Mantenha as pegas e as superfícies de contacto secas, limpas e sem restos de óleo e gordura.** As pegas e as superfícies de contacto escorregadias inviabilizam um manuseamento seguro e o controlo da ferramenta em situações inesperadas.

#### **Instruções de utilização e manutenção da bateria**

- a. **Recarregue apenas com o carregador especificado pelo fabricante.** Um carregador que é apropriado para um tipo de bateria pode criar risco de incêndio, quando utilizado noutra bateria.
- b. **Utilize apenas baterias especificamente desenhadas para a ferramenta eléctrica.** A utilização de outros tipos de bateria pode provocar danos e incêndios.
- c. **Se não utilizar a bateria, guarde-a afastada de outros objectos de metal, por exemplo, clips, moedas, chaves, parafusos, pregos ou outros objectos metálicos que possam criar uma ligação entre terminais.** O curto-circuito dos contactos da bateria pode causar queimadura ou um incêndio.
- d. **A utilização inadequada da bateria pode provocar fugas de líquido. Evite o contacto com o mesmo. Em caso de contacto accidental, lave com água.** Se o líquido tiver entrado

em contacto com os olhos, consulte de imediato o seu médico. O líquido da bateria pode causar queimaduras ou irritação.

- e. **Não utilize uma bateria ou uma ferramenta danificada ou modificada.** As pilhas danificadas ou modificadas podem apresentar comportamentos imprevisíveis, podendo originar incêndios, explosões ou ferimentos.
- f. **Não exponha uma bateria ou ferramenta ao fogo ou a temperaturas excessivas.** A exposição ao fogo ou a uma temperatura superior a 130 °C pode provocar uma explosão.
- g. **Respeite todas as instruções de carregamento e não carregue a bateria ou ferramenta fora do intervalo de temperatura especificado nas instruções.** O carregamento incorreto ou a temperaturas fora do intervalo especificado pode danificar a bateria e aumentar o risco de incêndio.

#### Serviço

- a. **A ferramenta eléctrica só deve ser reparada por um profissional, e utilizando exclusivamente peças de reposição idênticas.**

Isto vai assegurar que a segurança da sua ferramenta eléctrica vai ser mantida.

- b. **Nunca execute tarefas de manutenção em baterias danificadas.** As tarefas de manutenção das baterias só deve ser efetuado pelo fabricante ou por prestadores de serviços autorizados.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS DA FERRAMENTA

#### Avisos de segurança - berbequins/aparafusadoras

##### 1. Instruções de segurança para todas as operações

- a. **Use protetores para os ouvidos durante a perfuração.** A exposição ao ruído pode causar perda de audição.
- b. **Segure a ferramenta eléctrica pelas superfícies isoladas ao efetuar uma operação em que o acessório de corte ou os dispositivos de fixação possam entrar em contacto com fios ocultos.** O acessório de corte ou os dispositivos de fixação que entrem em contacto com um fio sob tensão podem tornar condutivas as partes metálicas expostas da ferramenta eléctrica e causar um choque elétrico ao operador.

##### 2. Instruções de segurança ao utilizar brocas longas

- a. **Nunca opere a uma velocidade superior à velocidade máxima da broca.** A velocidades mais elevadas, é provável que a broca sobre se for permitida a rotação livre sem contactar com a peça de trabalho, resultando em ferimentos pessoais.
- b. **Comece sempre a perfurar a baixa velocidade e com a ponta da broca em contacto com a peça de trabalho.** A velocidades mais elevadas, é provável que a broca sobre se for permitida a rotação livre sem contactar com a peça de trabalho, resultando em ferimentos pessoais.
- c. **Aplique pressão apenas em linha direta com a broca e não aplique pressão excessiva.** As brocas podem dobrar-se causando rutura ou perda de controlo, resultando em ferimentos pessoais.

**Utilize detectores apropriados para determinar se existem cabos ocultos na área de trabalho ou contacte a companhia de electricidade/gás para obter ajuda.** O contacto com cabos eléctricos pode provocar incêndio e choques eléctricos. Danos em tubos de gás podem provocar explosão. A perfuração de um cano de água pode causar danos materiais ou choques eléctricos.

**Desligue imediatamente a ferramenta eléctrica quando esta ficar bloqueada ou presa.** Esteja preparado para um binário de alta reação que possa causar coices. A ferramenta fica bloqueada quando:

- a ferramenta eléctrica é sujeita a sobrecarga
- ou fica encravado na peça de trabalho.

**Segure a máquina com firmeza.** A rotação a grande velocidade pode ocorrer por instantes durante o apertamento ou desapertamento.

**Fixe a peça a trabalhar.** Uma peça presa com dispositivos de aperto ou com torno de bancada fica mais firme do que se segurar apenas com as mãos.

**Mantenha o seu local de trabalho limpo.** Misturas de material são especialmente perigosas. Pó de metal leve pode incendiar-se ou explodir.

**Espere a ferramenta eléctrica pare completamente, antes de pousá-la.** A ranhura pode emperrar e levar à perda de controlo da ferramenta.

**Evite a ligação involuntária.** Certifique-se de que o interruptor está na posição off antes de introduzir a bateria. Pegar em ferramentas eléctricas com o dedo no interruptor ou ligar à electricidade ferramentas com o interruptor ligado é propício a acidentes.

### Avisos de segurança para carregadores



**Não usar no exterior.**

**Mantenha o carregador afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água num carregador aumenta o risco de choque eléctrico.

**Não carregar acumuladores de outras marcas.** O carregador só é apropriado para carregar as baterias que acompanham a ferramenta. Caso contrário, há risco de incêndio e explosão.

**Manter o carregador limpo.** Há risco de choque eléctrico devido a sujidade.

**Antes de cada utilização é necessário verificar o carregador, o cabo e a ficha. Não utilize o carregador se verificar que está danificado.** Não abra o carregador e só permita que seja reparado por pessoal qualificado. Carregadores, cabos e fichas danificados aumentam o risco

**De choque eléctrico. Não use o carregador sobre uma base facilmente inflamável (por ex.: papel, tecidos, etc.) ou em ambiente combustível.** Existe perigo de incêndio devido ao aquecimento do carregador durante o carregamento.

### INFORMAÇÃO SOBRE VIBRAÇÃO E RUÍDO

#### Nível de vibração e ruído

O nível de vibração e emissão de ruído indicado neste manual de instruções foi medido de acordo com um ensaio normalizado de acordo com a norma EN 62841. Pode utilizar-se para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar da exposição à vibração e ruído ao utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas neste manual. No entanto, a utilização da ferramenta para diferentes aplicações, ou com acessórios diferentes ou com uma manutenção indevida, pode aumentar significativamente o nível de exposição.

Uma estimativa do nível de exposição à vibração e ao ruído deve também ter em conta os tempos em que a ferramenta é desligada ou quando está em funcionamento, mas não está a ser utilizada, uma vez que tal pode reduzir significativamente o nível de exposição durante o período total de trabalho. Proteja-se contra os efeitos das vibrações e do ruído efetuando a devida manutenção da ferramenta e dos seus acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando o seu trabalho.

#### Outros riscos

**Mesmo quando a ferramenta eléctrica é utilizada como indicado, não é possível eliminar todos os restantes fatores de risco. Podem surgir os seguintes riscos relacionados com a construção e conceção da ferramenta eléctrica:**



Danos nos pulmões se não for usada uma máscara eficaz contra o pó.



Danos auditivos se não for usada uma proteção auditiva eficaz.



Danos para a saúde resultantes de vibrações se a ferramenta elétrica estiver a ser utilizada durante um período de tempo mais longo ou não for manuseada e mantida corretamente.



**AVISO!** Esta ferramenta elétrica produz um campo eletromagnético durante o funcionamento. Em algumas circunstâncias, este campo pode interferir com implantes médicos ativos ou passivos. Para reduzir o risco de ferimentos graves ou fatais, recomendamos que as pessoas com implantes médicos consultem o seu médico e o fabricante de implantes médicos antes de operarem esta máquina.

## MONTAGEM

Antes de qualquer procedimento à ferramenta (por ex.: manutenção, mudança de acessórios, etc.), bem como durante o transporte e arrumação, coloque o comutador Avançar/Retroceder na posição central. Se o botão On/Off for ligado involuntariamente, há o perigo de lesões.

### Carregar a parafusadora/berbequim

Em primeiro lugar, leia as instruções de segurança e depois siga as instruções de carregamento.

Ligue a extremidade do cabo USB-C à porta USB-C da bateria (Imagen 2) (A). Ligue a outra extremidade do cabo USB a um carregador ou ficha USB que forneça energia suficiente para carregar a parafusadora. Quando a bateria estiver ligada à fonte de alimentação, os diodos na parte posterior da bateria acendem-se para indicar o estado de carregamento:

- Luz intermitente - carregamento em progresso
- Luz fixa durante dois minutos / luz apagada - carregamento concluído

Assegure-se de que o cabo não apresenta nós nem dobras acentuadas. Depois de a bateria estar totalmente carregada e se permanecer ligada à corrente, os diodos irão manter-se acesos durante dois minutos e, posteriormente, desligar-se. Quando o carregamento estiver concluído, desligue o cabo de carregamento e, em seguida,术lize a bateria até ao suporte da parafusadora/berbequim. A parafusadora/berbequim está agora pronta a usar. Quando a parafusadora/berbequim não estiver em utilização, desligue a bateria da parafusadora/berbequim e guarde-a num local adequado. Em condições normais de utilização, a parafusadora pode ser recarregada várias centenas de vezes.

**ATENÇÃO!** O processo de carregamento gera calor na bateria. Não é aconselhável carregar a bateria em ambientes com temperaturas negativas. A bateria irá perder a carga com o tempo, mesmo que a ferramenta não seja usada.

### Verificar o nível de carga da bateria

Pode verificar o nível de carga da bateria pressionando brevemente o botão localizado na parte posterior da bateria. Os diodos irão acender-se para indicar o nível de carga restante:

- 3 diodos iluminados - carga completa
- 2 diodos iluminados - carga a meio
- 1 diodo iluminado - pouca carga

Logo depois, os diodos desligam-se.

**Atenção:** A bateria fornecida com a aparafusadora/berbequim foi carregada numa situação de teste, pelo que tem de ser completamente carregada antes da primeira utilização.

A aparafusadora/berbequim e a bateria TRIXIG foram concebidos para serem usados em conjunto.

**NUNCA** utilize esta bateria para alimentar ferramentas sem fios de outros fabricantes.

A bateria de iões de lítio está protegida dos descarregamentos totais pela "Electronic Cell Protection (ECP)". Quando a bateria estiver vazia, a máquina desliga-se mediante um circuito protetor: a ferramenta inserida deixa de girar.



**ATENÇÃO!** Não continue a carregar no botão On/Off depois de a máquina se desligar automaticamente. Pode danificar a bateria.



**ATENÇÃO!** Carregue a bateria numa superfície que não seja inflamável. Não deixe a bateria a carregar mais de 8 horas.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

### Utilização da ferramenta

**Nota:** podem surgir faíscas através das aberturas de refrigeração do motor durante o funcionamento. As faíscas são uma reação normal do motor quando está a ser utilizado, sendo criadas devido à fricção dos componentes uns contra os outros. Esta situação não afeta a potência da ferrelementa. Contudo, recomendamos que não a utilizem perto de líquidos inflamáveis, gases ou pó, que podem incendiar-se devido às faíscas.

### Portabrocas sem chave

O berbequim tem um portabrocas sem chave para poder apertar ou desapertar brocas de aparafusadora/berbequim facilmente. Segure a manga frontal e prima o controlo/gatilho de velocidade para abrir/fechar o portabrocas.

### Montar brocas e berbequins

Antes de qualquer procedimento à ferramenta (por ex.: manutenção, mudança de acessórios, etc.), bem como durante o transporte e arrumação, coloque o comutador Avançar/Retroceder na posição central. Se o botão On/Off for ligado involuntariamente, há o perigo de lesões. Rode a manga frontal para ajustar o portabrocas até a abertura ficar um pouco mais larga do que a haste da broca de perfuração que pretende usar. Insira a aparafusadora/berbequim no portabrocas. Aperte o portabrocas na aparafusadora/berbequim conforme foi descrito anteriormente (portabrocas sem chave).

### Regular a velocidade da haste

É possível regular a velocidade de rotação de zero para o máximo, alterando a pressão aplicada no gatilho. O que lhe permite escolher a velocidade adequada para a tarefa que irá realizar.

### Inverter a direcção da rotação

Pode inverter a direcção da rotação usando o comutador de Avançar/Retroceder (4). Para bloquear a alavanca, defina o comutador para a posição central, entre as opções esquerda e direita.

### Ajuste o grau de aperto

Rode o regulador de rotação (2) para a posição pretendida. As posições 1-19 são usadas para aparafusar/desaparafusar (quanto maior for o valor, maior é o grau de aparafusamento). Selecione o símbolo de perfuração antes de usar a ferramenta para perfurar.

## **Suporte para brocas magnético**

Pode colocar as brocas e pontas que está a utilizar atualmente no suporte para brocas magnético (8.) sobre a aparafusadora/berbequim para que estejam à mão enquanto trabalha.

## **Ponteiro luminoso LED**

A aparafusadora tem um ponteiro luminoso LED para iluminar a área de trabalho. Os ponteiros luminosos LED ligam-se sempre que a alavanca é premida e, em seguida, desligam-se quando a alavanca é libertada.

## **AVISO: PERIGO DE ENTALAMENTO**

Não segure a parte frontal de bloqueio da bucha com uma mão ao mesmo tempo que abre ou fecha as garras da bucha com o auxílio do motor da aparafusadora/berbequim.

## **Manutenção e limpeza**

Mantenha a aparafusadora/berbequim sempre limpa e seca para trabalhar de forma segura e eficaz. Limpe o aparelho com um pano suave, humedecido com água. Não utilize detergentes de limpeza.

Para um funcionamento adequado e em segurança, mantenha sempre a ferramenta e as ranhuras de ventilação limpas.

Este produto destina-se a utilização doméstica, não se destina a medições comerciais ou oficiais realizadas por profissionais.

**Guarde este manual para consulta futura.**

**Fabricante: IKEA of Sweden AB**

**Endereço: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SUÉCIA**



As pilhas e baterias recarregáveis não são lixo doméstico! Enquanto consumidor, está obrigado por lei a eliminar todas as pilhas e acumuladores, quer contenham substâncias nocivas\* ou não, num ponto de recolha do seu município/bairro ou através de uma entidade comercial que ofereça a eliminação de baterias para que possam ser eliminadas de forma ecológica.

\* marcado com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo



O símbolo do caixote do lixo com o sinal de proibição indica que esse artigo deve ser separado dos resíduos domésticos convencionais. Deve ser entregue para reciclagem de acordo com as regulamentações ambientais locais para tratamento de resíduos. Ao separar um artigo assinalado dos resíduos domésticos, ajuda a reduzir o volume de resíduos enviados para os incineradores ou aterros, minimizando o potencial impacto negativo na saúde pública e no ambiente. Para mais informações, contacte a loja IKEA perto de si.

# 中文

## TRIXIG 缇克西 电动螺丝刀/电钻 12V

### 技术参数——电动螺丝刀/电钻

型号：TRIXIG 缇克西

型号：P2202

标称电压 直流: 10.8 Vdc

额定电压 直流: 12.0 Vdc

电池类型：锂电池1.5Ah

#### 充电时间：

如果使用5.0V1.0A充电电流——充电时间< 360分钟

如果使用5.0V2.0A充电电流——充电时间< 210分钟

如果使用5.0V3.0A充电电流——充电时间< 150分钟

夹盘尺寸：0.8-10mm (1/32-3/8英寸)

可调节扭矩：19+钻孔

最大硬扭矩：大约 16 Nm

最大转速（空转速度）：900/min

钻头固定器：6.35mm (1/4英寸)

重量：大约1.035千克(2.282磅) （仅电钻和电池组重量）

### 振动 (符合EN 62841-1, EN 62841-2-1相关规定) :

钻入金属

$a_{h,D} = 1.1 \text{m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{m/s}^2$

### 噪音 (符合EN 62841-1相关规定) :

噪音声压等级 $L_{pA} = 72 \text{dB (A)}$ ,  $K_{pA} = 5 \text{dB (A)}$

噪音声功率等级 $L_{wA} = 80 \text{dB (A)}$ ,  $K_{wA} = 5 \text{dB (A)}$

### 技术数据——电池组

型号：ICBL 10.8-16-USBC-P1

容量：1.5Ah锂离子电池，16.2Wh

输入：5.0V直流电。/ 1.0-3.0A (USB-C)

内附可充电锂离子电池。（三节INR19/66锂离子电池串联成一组）

仅限室内使用。

### 建议充电额定值：

直流 5.0V/ 1.0-3.0A (Type-C), 充电温度 0-50°C

### 产品功能

所示产品功能的编号对应图示页上的螺丝刀/电钻图示。

1.无键夹盘

2.扭矩调节器

3.无限变速控制器/扳机

4.旋转方向开关

- 5.LED工作灯
- 6.电池组
- 7.前轴套
- 8.磁性钻套

## 注意！

本品不含 USB-C 电缆和 USB 充电器。电动螺丝刀/电钻的盒子内额外设有一个储物格，可用于存放一个补充TRIXIG 缇克西 电池组。

## 用途

此无线电钻/螺丝刀可用于在木材、塑料、软金属材料上钻孔，以及可用来拧紧/拧松螺丝。

此设备并非为身体、感官或心理有障碍，或者缺乏经验和知识的人（包括儿童）所使用，除非由其监护人监督或在负责其安全的人指导下使用。

必须照看好孩子，确保他们不会将该设备作为玩具。

## 一般安全说明

### 电动工具 - 一般安全说明



**警告！请阅读此电动工具提供的安全警告、说明、插图和规格。不遵守下列说明可能会导致触电、火灾和/或严重伤害。**

### 请妥善保存所有警告和说明以备将来参考

警告中提及的术语“电动工具”是指电源供电（有线）电动工具或电池供电（无线）电动工具。

## 工作区域安全

- a. 工作区域需保持干净且光线充足，以免因环境杂乱和光线不足而发生危险。
- b. 电动工具产生的火花可能引起火灾，因此不可在含有易燃液体、气体或灰尘的爆炸性环境下使用电动工具。
- c. 操作电动工具时需避免任何人站在一旁观看，以免使用者因分心而发生危险。

## 电气安全

- a. 电动工具插头需符合插座规格，且不可任意更换插头。接地式电动工具不可使用转接器插头。使用正常插头及适合插座，可降低触电危险的发生。
- b. 须避免身体接触如水管、暖气、炉具和冰箱等接地表面，以免造成触电危险。
- c. 不可将电动工具置于潮湿环境，以免湿气侵入造成触电危险。
- d. 不可以拉扯电线的方式搬移电动工具或拔掉插头。电线须远离热源、油、锐利边缘或工具的活动零件，以避免因电线受损或缠绕而造成触电危险。
- e. 在户外操作电动工具时，需使用户外用延长线，以降低触电危险。

f. 需在潮湿地点使用电动工具时，请使用漏电断路器(RCD)。使用漏电断路器可减少触电危险。

## 个人安全

- a. **操作电动工具时须格外专注，并保持警觉。**当感觉疲劳或因药物、酒精而导致精神不济时，不可使用电动工具，以免造成严重伤害。
- b. **操作电动工具时须戴上护目镜，并使用安全装备，如防尘口罩、防滑安全鞋、安全帽或耳罩，以降低受伤的危险。**
- c. **在电源开启状态下，搬移电动工具或插上插头，都可能会造成受伤的危险。**为避免意外的发生，插上插头或装入电池前须确认电源关闭。
- d. **开启电源前，先拆下可调整键或扳手。**若未将旋转零件上的扳手或调整键拆下，可能造成伤害。
- e. **不可过度使用。**操作电动工具时保持稳固和平衡，有助于在突发状况下有效控制工具。
- f. **操作电动工具时需穿着适当服装，不可穿着宽松衣物或配戴饰品。**操作时，务必让头发、衣物和手套远离活动零件。由于宽松衣物、饰品或头发容易被活动零件夹住，
- g. **如果电动工具内建可连接吸尘和收集设备的装置，需确认装置稳固连接和正确使用。**使用这些装置可降低因灰尘而引起的危险。
- h. **不可让经常使用的熟悉度让你变得自满，忽略工具的安全原则。**粗心的动作会立即造成严重伤害。

## 电动工具的使用和保养

- a. **不可错误使用电动工具，**需依不同物品材质使用正确的电动工具。正确的电动工具可使工作事半功倍，更加安全。
- b. **如果电源无法正常开关，不可使用电动工具。**无法正常操作的电动工具须立即维修，以免发生危险。
- c. **调整设定、更换配件或存放电动工具前，**须先拔掉插头或取下电池。此种安全预防方法，可降低误启电动工具的危险。
- d. **电动工具不用时需存放在孩童接触不到的地方。**不可让不熟悉电动工具或操作说明的人接触电动工具，以免发生危险。
- e. **保养电动工具。**检查活动零件是否调整错误或链接固定、零件是否破损，以及可能影响电动工具操作的其他状况。如有损坏，使用前，应立即让专人维修。须定期保养电动工具，以免使用时发生意外。
- f. **为保持切割工具的锐利度和清洁，**可适当的磨利切割刀缘，减缓紧度，方便使用。
- g. **依照说明书，以及特殊电动工具的使用方法，并考虑工作状况和物品材质，**使用电动工具、配件和工具。如用作其他用途，可能造成危险。
- h. **使把手和抓握表面保持干燥、干净，**避免沾染油脂。光滑的把手和抓握表面，让你在意外的状况下不易操作和控制工具。

## 电池式电动工具使用与保养说明

- a. **仅能用产品提供的充电器充电。**须使用适合充电器类型的电池，以免造成危险。
- b. **仅能使用适合的电池，**以免造成伤害和起火的危险。
- c. **电池不使用时，**须放在远离回形针、硬币、钥匙、铁钉、螺丝等可能连接电池两端的地方。电池短路可能造成烧伤或火灾。

- d. **不可任意使用充电器**, 以免因电池破裂而接触到有毒物质。如果不小心接触到有毒物质, 立即冲水清洗。因电池内的有毒物质会造成过敏或烧伤, 如果眼睛不小心接触到, 须立即就医。
- e. **请勿使用损坏或改装的电池组或工具**。损坏或改装的电池可能会带来不可预测的行为, 从而导致火灾、爆炸或受伤风险。
- f. **请勿将电池组或工具置于火中或温度过高的环境中**。置于火中或温度高于 130°C 的环境中可能会导致爆炸。
- g. **请遵循所有充电说明**, 不要在说明规定的温度范围之外为电池组或工具充电。充电不当或在规定温度范围之外充电可能会损坏电池并增加火灾风险。

## 服务

- a. 须由合格的修护人员来维修电动工具, 并只能使用相同的替换零件。  
如此能确保电动工具的安全性。
- b. 切勿维修损坏的电池组。仅可由制造商或授权服务提供商对电池进行维修。

## 与机器相关的安全说明

### 钻头与螺丝刀安全警告

#### 1. 所有操作环境下的安全说明

- a. **进行冲击钻孔时应佩戴耳罩**。暴露在噪音中会导致听觉损耗。
- b. **如果在操作过程中切割配件或紧固件可能接触隐藏的电线**, 则需要抓持电动工具的绝缘部分。切割配件或紧固件接触“带电”的电线可能会使电动工具裸露的金属部件导电, 并可能使操作员触电。

#### 2. 使用长钻头时的安全说明

- a. **操作时切勿超过钻头的最大额定转速**。在较高转速下, 如果钻头在不接触工件的情况下自由旋转, 可能会发生弯曲, 从而导致人身伤害。
- b. **始终以低速开始钻孔, 并使钻头尖端与工件接触**。在较高转速下, 如果钻头在不接触工件的情况下自由旋转, 可能会发生弯曲, 从而导致人身伤害。
- c. **施力方向应与钻头方向一致, 不要施加过大的压力**。钻头可能会弯曲, 引起破损或失控, 进而导致人身伤害。

使用适合的侦测器, 以便找出隐藏在工作场所的电源线, 或向当地的供电单位索取相关资料。电动工具须避免接触到下列物品: 电线, 输气管道和水管, 以免引起火灾、爆炸和造成触电。

当电动工具被阻塞或卡住时, 请立即将其关闭。为可能会导致反冲的高反作用扭矩做好准备。在以下情况下, 本工具会被阻塞:

- 电动工具过载
- 或者被嵌入工件。

**务必握紧电动工具。**在拧紧和旋松螺丝时，可能出现短暂的强大反冲。

**固定部件。**使用固定装置或老虎钳固定部件，会比用手持握更牢固。

**工作场所须保持干净。**不同材质经钻孔后所产生的粉尘经过混合后容易产生化学反应，十分危险。轻合金粉尘容易着火或引起爆炸。

**等待电动工具完全静止后才能放下。**电动工具上的工具可能在工作中卡住，而使你无法控制电动工具。

**避免不小心打开电动工具。**插入电池前确保开关处于关闭状态。搬动电动工具时手指放在开关上，或在开关打开时插入电池都可能引发事故。

## 电池充电器安全警告



仅供室内使用。

**不要让电池充电器淋雨或暴露于潮湿的环境中，**水分渗入充电器中会增加触电的危险。

**不可用来替其他电池充电，**电池充电器只适用于此电动工具的电池，以免造成起火和爆炸的危险。

**电池充电器须保持干净。**污垢会造成触电的危险。

**每次使用前，先检查电池充电器、电线和插头是否受损。**若发现损坏，请立即停止使用。不可自行拆解电池充电器、电线和插头，须交由专业维修人员进行维修。使用受损的电池充电器、电线和插头会增加触电的危险。

**不可在易燃表面或附近（如纸、纺织品等）操作电池充电器，**以免因充电时，电池充电器过热而造成起火的危险。

## 振动和噪声说明

### 振动和噪声水平

我们已根据 EN 62841 中所列的标准化测试对本说明手册中提及的振动和噪声发射水平进行了检测。它可用于将一种工具与另一种工具进行比较，还可作为将该工具用于本手册所提及的用途时暴露于振动和噪音的程度的初步评估。但是，将本工具用于不同的用途，或者使用不同或维护不善的配件，可能会显著增加暴露水平。

对振动和噪音暴露水平的评估还应考虑工具关闭或运行但未使用的时间，因为这可能会显著降低整个工作期间的暴露水平。通过维护工具及其配件、保持双手温暖和统筹工作来保护自己免受振动和噪音的影响。

## 其它风险

即使按规定使用本电动工具，也不可能消除所有其它风险因素。本电动工具的结构和设计可能会带来以下危险：



如不佩戴有效的防尘口罩，会对肺部造成损害。



如不佩戴有效的听力保护装置，会对听力造成损害。



如果本电动工具被长时间使用或未被正确处理和维护，则振动会对健康造成损害。



**警告！**此电动工具在操作过程中会产生电磁场。在某些情况下，该电磁场可能会干扰主动或被动医疗植入物。为了降低严重或致命伤害的风险，我们建议使用医疗植入物的人员在操作本工具之前咨询他们的医生和医疗植入物制造商。

## 组装

使用（维修、更换工具等）以及运输和存放机器前，请将旋转方向开关置于中央位置。不小心启动电源开关可能会导致受伤。

## 螺丝刀/电钻充电

使用前，请先阅读安全说明，然后按照充电说明进行操作。

先将USB-C电线一端连接到电池组上的USB-C端口（图2）(A)。然后将USB-C电线另一端连接到能够为螺丝刀/电钻提供充足电力的USB充电器或USB电源。当电池组连接到电源后，电池组背面的二极管亮起，显示充电状态：

- 脉冲光——充电进行中

- 两分钟稳定光/无灯光——充电完成

请务必确保电线没有打结或弯折。当电池组充满电且电池组未与电源断开时，二极管将亮起，并于两分钟后熄灭。充电完毕后，请断开电池组电源线，然后将其放入螺丝刀/电钻的电池座内。这时便可以开始使用此螺丝刀/电钻了。不使用螺丝刀/电钻时，请将电池组从螺丝刀/电钻中取出并将其妥善存放。正常使用情况下，螺丝刀可重复充电数百次。

**注意！**充电过程中电池会产生热量。不建议在低于冰点的温度下为电池充电。即使不使用，电池也会在一段时间后逐渐失去电量。

## 查看电池组的充电状态

短按电池组背面的按钮即可查看电池组的充电状态。二极管将亮起并显示剩余电力的状态：

- 3个二极管亮起——满电量

- 2个二极管亮起——中等电量

- 1个二极管亮起——低电量

二极管不久之后将熄灭。

使用（维修、更换工具等）以及运输和存放机器前，请将旋转方向开关置于中央位置。不小心启动电源开关可能会导致受伤。

**注意：**螺丝刀/钻头随附的电池仅经过充电测试，未充满电，因此，首次使用前需完全充电。

TRIXIG 缇克西 电动螺丝刀/电钻和TRIXIG 缇克西 电池组是配套的，不可分开使用。

切勿使用此电池组为其他制造商的无线工具供电。

锂离子电池带有“电子电池保护(ECP)”系统，可防止深度放电。电池没电时，设备通过保护电路关闭：插入的工具不再旋转。



**警告** 设备自动关闭后，请勿继续按On/Off（开/关）按钮。电池可能会损坏。



**警告！** 请在不易燃的表面上为电池充电。电池充电时间勿超过八小时。

## 使用说明

### 使用工具

**注意：**操作时，电机外壳的沟槽可能产生火花。使用时产生火花是正常现象，这是因为电机内侧的零件相互摩擦所造成，电动工具的功能不会受到影响。电动工具产生的火花可能引起火灾，切勿在含有易燃液体、气体或灰尘的环境下使用电动工具。

### 无键夹盘

电钻配有一个无键夹盘，因此只需拧紧或拧松螺丝刀/电钻的刀头即可。握住前轴套，然后按下速度控制/触发即可打开/关闭夹盘。

### 安装刀头和钻头

旋转前轴套调节夹盘，直至开口稍大于要使用的刀头/钻头直径。将刀头/钻头放入夹盘中。按照上述操作，将刀头/钻头紧紧固定在夹盘中（无键夹盘）。

### 调节轴速度

通过改变施加到触发器的压力，可以将两个轴速度从零调节到上限值。这样你就能够为需要处理的任务选择最优的速度。

### 改变转向

你可以使用扳机上面的旋转方向选择器（4）来改变转向。要锁定扳机，将选择器调节到左右选项的中间位置。

## 调节拧力

将扭矩调节器(2)调节到理想位置。设定1-19，用于拧紧/拧松螺丝（数值越高，拧力越大）。使用钻孔工具前，先选择钻孔符号。

## 磁性钻套

你可以将当前使用的刀头和钻头放在螺丝刀/电钻顶部的磁性钻套(8)上，方便在工作时随手取用。

## LED工作灯

螺丝刀内置LED工作灯，可照亮工作区域。每次按压触发开关时LED工作灯亮起，松开触发开关时LED工作灯熄灭。

## 警告：夹伤危险

利用电钻/螺丝刀马达打开或关闭夹盘爪的同时，请勿用一只手握住夹盘的前套。

## 维护和清洁

请始终保持螺丝刀/电钻洁净干燥，以确保正确、安全的操作。请使用柔软的湿布擦拭碎屑。请勿使用任何清洁剂或溶剂清洁。

为确保安全和正常工作，请始终保持设备和通风槽清洁。

本产品仅供家庭使用，不适用于需由专业人员进行的商业测量或合格测量。

**请保留本手册以备将来使用。**

**制造商：IKEA of Sweden AB**

**地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**

消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准的电源适配器。



电池和充电电池非生活垃圾！作为消费者，您需要依法在您所在市政当局/社区的收集点，或通过提供电池处理服务的商业实体，处理所有电池和蓄电池，而无论其是否含有害物质\*。这样有助于以环保的方式处理它们。

\* 表示含有：Cd = 镉，Hg = 汞，Pb = 铅



带十字的垃圾桶标志代表该产品必须与家用垃圾分开处理。同时对产品的处理必须符合当地关于废物处理的相关规定。每做一次分类，就减少了送入焚烧炉和垃圾填埋场垃圾的数量，进而将不利于人类身体健康和环境的负面影响最小化。想了解更多，请联系当地宜家商场。

名称 Part name	有害物质Hazardous Substances					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电子部件	X	O	O	O	O	O
电源线组	X	O	X	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制：

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量

# 繁中

## TRIXIG 電動起子機/電鑽 12V 鋰電池

### 技術規格 - 電動起子機/電鑽

型號：TRIXIG

類型：P2202

標稱電壓：10.8V 直流

額定電壓：12V 直流

電池類型：1.5 Ah鋰電池

充電時間：

若使用5.0V/1.0A充電器，充電時間少於360分鐘。

若使用5.0V/2.0A充電器，充電時間少於210分鐘。

若使用5.0V/3.0A充電器，充電時間少於150分鐘。

夾頭適用範圍：0.8 - 10公釐 (1/32-3/8英吋)

可調扭力：19+段

最大扭力：大約16 Nm

空載最大轉速：900/min

螺絲起子頭接桿：6.35公釐 (1/4英吋)

重量：大約1.035公斤 (2.282磅) (只含電鑽及電池)

### 振動程度(依據EN 62841-1、EN 62841-2-1相關規定)：

鑽入金屬

$a_{h,D} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{ m/s}^2$

### 噪音程度(依據62841-1相關規定)：

音壓位準 $L_{PA} = 72 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{PA} = 5 \text{ dB (A)}$

聲功率位準 $L_{WA} = 80 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{WA} = 5 \text{ dB (A)}$

### 技術規格 - 電池

類型：ICBL 10.8-16-USBC-P1

容量：1.5Ah Lithium-Ion, 16,2Wh

輸入：5.0 Vdc / 1.0-3.0A (USB-C)

附可充電鋰電池。(三顆INR19/66鋰電池串聯)

僅適合室內使用。

### 建議充電額定值：

5.0V 直流 / 1.0-3.0A (C型) , 充電溫度0-50°C

### 產品部位名稱

依產品圖編號，各部位名稱如下：

1. 快裝夾頭
2. 扭力設定環
3. 多段變速控制裝置
4. 正逆轉開關
5. LED照明燈
6. 電池
7. 前套筒
8. 磁性起子頭接桿

## **注意！**

不包括USB-C電纜和USB充電器。電動起子機/電鑽盒內附額外收納間隔，用來放置備用的TRIXIG電池。

## **使用區域**

此電動工具可在木材、塑膠和軟金屬上鑽孔，也可用於轉入和轉出螺絲。

除非有熟悉操作電動工具的人員在旁邊協助並確保使用安全，否則不可讓不熟悉操作電動工具或缺乏使用經驗和相關知識的人員(包含兒童)使用此電動工具。

不使用的電動工具須存放在兒童接觸不到的地方。

## **一般安全說明**

### **電動工具 - 一般安全說明**



**警告！請閱讀此電動工具提供的所有安全警告、說明、插圖和規格。不遵守下面列出的所有說明可能會導致觸電、火災和/或嚴重傷害。**

### **請保存所有警告和說明以備將來參考**

警告中的術語「電動工具」是指您的電源供電（有線）電動工具或電池供電（無繩）電動工具。

## **工作區域安全**

- a. 工作區域需保持乾淨及光線充足，以免因環境雜亂和光線不足而發生危險。
- b. 電動工具產生的火花可能引起火災，因此不可在含有易燃液體、氣體或灰塵的爆炸性環境下使用電動工具。
- c. 操作電動工具時需避免任何人站在一旁觀看，以免使用者因分心而發生危險。

## **電氣安全**

- a. **電動工具插頭需符合插座規格，且不可任意更換插頭。**接地式電動工具不可使用轉接器插頭。使用正常插頭及適合插座，可降低觸電危險的發生。
- b. **須避免身體接觸如水管、暖氣、爐具和冰箱等接地表面，以免造成觸電危險。**
- c. **不可將電動工具置於潮濕環境，以免溼氣侵入造成觸電危險。**
- d. **不可以拉扯電線的方式搬移電動工具或拔掉插頭。**電線須遠離熱源、油、銳利邊緣或工具的活動零件，以避免因電線損害或纏繞而造成觸電危險。
- e. **在戶外操作電動工具時，需使用戶外用延長線，以降低觸電危險。**
- f. **需在潮溼地點使用電動工具時，請使用漏電斷路器(RCD)。**使用漏電斷路器可減少觸電危險。

## **個人安全**

- a. **操作電動工具時須格外專注，並保持警覺。**當感覺疲勞或因藥物、酒精而導致精神不濟時，不可使用電動工具，以免造成嚴重傷害。
- b. **操作電動工具時須戴上護目鏡，並使用安全裝備，如防塵口罩、防滑安全鞋、安全帽或耳罩，以降低受傷的危險。**
- c. **在電源開啟狀態下，搬移電動工具或插上插頭，都可能會造成受傷的危險。**為避免意外的發生，插上插頭或裝入電池前須確認電源關閉。

- d. 開啟電源前，先拆下可調整鍵或扳手。若未將旋轉零件上的扳手或調整鍵拆下，可能會造成傷害。
- e. **不可過度使用**。操作電動工具時保持穩固和平衡，有助於在突發狀況下有效控制工具。
- f. 操作電動工具時需穿著適當服裝，**不可穿著寬鬆衣物或配戴飾品**。由於寬鬆衣物、飾品或頭髮容易被活動零件夾住，操作時，務必讓頭髮、衣物和手套遠離活動零件。
- g. **如果電動工具內建可連接吸塵和收集設備的裝置，需確認裝置穩固連接和正確使用**。使用這些裝置可降低因灰塵而引起的危險。
- h. **不可讓經常使用的熟悉度讓你變得自滿，忽略工具的安全原則**。粗心的動作會立即造成嚴重傷害。

#### 電動工具使用與保養說明

- a. **不可錯誤使用電動工具，需依不同物品材質使用正確的電動工具**。正確的電動工具可使工作事半功倍，更加安全。
- b. **如果電源無法正常開關，不可使用電動工具**。無法正常操作的電動工具須立即維修，以免發生危險。
- c. **調整設定、更換配件或存放電動工具前，須先拔掉插頭或取下電池**。如此的安全預防方法，可降低誤啟電動工具的危險。
- d. **電動工具不用時需存放在孩童接觸不到的地方**。不可讓不熟悉電動工具或操作說明的人接觸電動工具，以免發生危險。
- e. **保養電動工具**。檢查活動零件是否調整錯誤或連結固定，零件是否破損及可能影響電動工具操作的其他狀況。如果發現電動工具受損，使用前需維修工具。須定期保養電動工具，以免使用時發生意外。
- f. **為保持切割工具的銳利度和清潔**，可適當的磨利切割刀緣，減緩緊度，方便使用。
- g. **依照說明書，以及特殊電動工具的使用方法，並考慮工作狀況和物品材質**，使用電動工具、配件和工具。錯誤的使用方式，可能會造成危險的發生。
- h. **使把手和抓握表面保持乾燥、乾淨，避免沾染油脂**。光滑的把手和抓握表面，讓你在意外的狀況下不易操作和控制工具。

#### 電池式電動工具使用與保養說明

- a. **僅能用產品提供的充電器充電**。須使用適合充電器類型的電池，以免造成危險。
- b. **僅能使用適合的電池**，以免造成傷害和起火的危險。
- c. **電池不使用時，須放在遠離迴紋針、硬幣、鑰匙、鐵釘、螺絲等可能連接電池兩端的地方**。電池短路可能造成燒傷或火災。
- d. **不可任意使用充電器，以免因電池破裂而接觸到有毒物質**。如果不小心接觸到有毒物質，立即沖水清洗。因電池內的有毒物質會造成過敏或燒傷，如果眼睛不小心接觸到，須立即就醫。
- e. **請勿使用損壞或改裝的電池組或工具**。損壞或改裝的電池可能會表現出不可預測的行為，從而導致火災、爆炸或受傷風險。
- f. **請勿將電池組或工具暴露在火中或溫度過高的環境中**。暴露於火中或溫度高於130°C可能會導致爆炸。
- g. **請遵循所有充電說明，不要超出說明中指定的溫度範圍為電池組或工具充電**。充電不當或在超出指定範圍的溫度下充電可能會損壞電池並增加火災風險。

#### 服務

- a. **須由合格的修護人員來維修電動工具**，並只能使用相同的替換零件。  
如此能確保電動工具的安全性。
- b. **切勿維修損壞的電池組**。電池組的服務只能由製造商或授權服務提供者進行。

## 特殊安全說明

### 電鑽起子機之安全警告

#### 1. 關於所有操作的安全說明

- a. **衝擊鑽孔時須佩戴耳罩。**暴露在噪音中會導致損傷聽力。
- b. **在執行切割附件或緊固件可能接觸隱藏電線的操作時，請握住電動工具的絕緣抓握面。**切割附件或緊固件接觸「帶電」電線可能會使電動工具的裸露金屬部件導電，並可能使操作人員觸電。

#### 2. 使用長鑽頭時的安全說明

- a. **切勿以高於鑽頭最大額定轉速的速度運行。**在較高的速度下，如果讓鑽頭在不接觸工件的情況下自由旋轉，則可能會彎曲，從而導致人身傷害。
- b. **始終以低速開始鑽孔，並且保持鑽頭尖端與工件接觸。**在較高的速度下，如果讓鑽頭在不接觸工件的情況下自由旋轉，則可能會彎曲，從而導致人身傷害。
- c. **僅在與鑽頭成一直線的方向施加壓力，不要施加過大的壓力。**鑽頭可能會彎曲，導致破損或失控，從而導致人身傷害。

使用適合的偵測器，以便找出隱藏在工作場所的電源線，或向當地的供電單位索取相關資料。電動工具須避免接觸到下列物品：電線、瓦斯管和水管，以免引起火災、爆炸和造成觸電。

**當工具被阻滯或卡住時，立即關閉電動工具。**要準備好應對可能導致反沖的高反作用扭矩。在以下情況下，該工具將被停止：

- 電動工具過載
- 或者它被卡在工件中。

**務必握緊電動工具。**在轉入和轉出螺絲時，可能出現短暫的強大回擊。

**固定機器部件。**使用固定裝置或老虎鉗固定機器部件，會比用手持握更牢固。

**工作場所須保持乾淨。**不同材質經鑽孔後所產生的粉塵經過混合後容易產生化學反應，十分危險。輕合金粉塵容易著火或引起爆炸。

**等待機器完全靜止後才能放下。**機器上的工具可能在工作中卡住，而使你無法控制電動工具。

**安裝電池前，先確定起停開關在關的位置，以預防意外啟動電動工具。**攜帶電動工具時，請勿將手指置於起停開關，或安裝電池時未關閉電動工具開關，以免造成危險。

### 電池充電器之安全警告



僅適合室內使用。

**不要讓電池充電器淋雨或暴露於潮溼的環境中，水分滲入充電器中會增加觸電的危險。**

**電池充電器只適用於此電動工具的電池，不可用來替其他電池充電，以免造成起火和爆炸的危險。**

**電池充電器須保持乾淨。污垢會造成觸電的危險。**

**每次使用前，先檢查電池充電器、電線和插頭是否受損。若發現損壞，請立即停止使用。不可自行拆解電池充電器、電線和插頭，須交由專業維修人員進行維修。使用受損的電池充電器、電線和插頭會增加觸電的危險。**

**不可在易燃表面或附近(如紙、布織品等)操作電池充電器，以免因充電時，電池充電器過熱而造成起火的危險。**

## **振動和噪音資訊**

### **振動和噪音水平**

本說明手冊中規定的振動和噪音排放水平，已根據EN 62841中的標準化測試進行測量。其可用於將一種工具與另一種工具進行比較，並作為將該工具按本手冊做應用時暴露於振動和噪音的初步評估。但是，將該工具用於不同的應用，或者使用不同或維護不善的配件，可能會顯著增加暴露水平。

對振動和噪音暴露水平的估計還應考慮工具關閉或運轉但未使用的時間，因為這可能會顯著降低整個工作期間的暴露水平。通過維護工具及其配件、保持雙手溫暖和妥善編排工作來保護自己免受振動和噪音的影響。

### **其他風險**

即使按規定使用電動工具，也不可能消除所有其他風險因素。電動工具的結構和設計可能會出現以下危險：



如果不佩戴有效的防塵口罩，會對肺部造成損害。



如果不佩戴有效的聽力保護裝置，會對聽力造成損害。



如果電動工具長時間使用或未正確處理和維護，則振動會對健康造成的損害。



**警告！** 該電動工具在操作過程中會產生電磁場。在某些情況下，該磁場可能會干擾主動或被動醫療植入物。為了降低嚴重或致命傷害的風險，我們建議使用醫療植入物的人在操作本機之前諮詢他們的醫生和醫療植入物製造商。

## 組裝說明

在電動工具上進行任何維護的工作(如維修、更換工具等)，以及搬運和收納此機器之前，正逆轉開關須設定在中間位置，以免意外啟動電源造成傷害。

## 電動起子機/電鑽充電說明

請先仔細閱讀安全說明，並依照指示進行充電。

將USB-C傳輸線的一端，連接到電池的USB-C插孔內 (圖2) (A)。然後將USB傳輸線的另一端，連接到USB充電器或USB插槽，確保可提供足夠的電力，為電動起子機/電鑽充電。當電池連接電源時，電池後方的指示燈會亮起，顯示充電狀態：

- 當指示燈快速閃爍時，表示電池正在充電。
- 當指示燈長亮2分鐘或熄滅時，表示充電完成。

請確認電線是否打結或折彎。當電池充滿電後仍連接著電源時，指示燈會持續亮著2分鐘後自動熄滅。當充電完成後，請先拔除充電線，再將電池放入電動起子機/電鑽的收納間隔內。電動起子機/電鑽即可使用。不使用電動起子機/電鑽時，請拔除與電池的連接，並存放在適當的地方。在正常使用情況下，可重複充電數百次。

**注意！** 充電過程中電池會變熱。不可在低溫環境下為電池充電。儘管工具未被使用，電池仍會隨時間逐漸流失電力。

## 檢查電池的電量

你可短按電池背面的按鈕，來檢查電池的電量。指示燈會如下亮起，顯示電池的剩餘電量：

- 3個指示燈亮起，表示電量充滿
- 2個指示燈亮起，表示電量中等
- 1個指示燈亮起，表示電量低

指示燈稍後會自動熄滅。

**注意：**電動起子機/電鑽所附的電池，為供檢測使用僅部份充電，初次使用前須先將充電池完全充電。

TRIXIG電池專為TRIXIG電動起子機/電鑽而設。

電池不適用於其他品牌的無線工具。

此鋰電池配備電子保護裝置(ECP)，可防止電池過度放電。電池電量用盡後，保護開關會自動關閉電動工具，安裝在機器上的工具會停止轉動。



**警告！** 機器自動關閉電源後，不可持續按壓電源開關，以免損害電池。



**警告！** 請在非易燃表面上替電池充電。充電時間不可超過8小時。

## **使用說明**

### **使用工具**

**注意：**操作時，馬達外殼的溝槽可能產生火花。使用時產生火花是正常現象，這是因為馬達內側的零件相互摩擦所造成，電動工具的功能不會受到影響。電動工具產生的火花可能引起火災，切勿在含有易燃液體、氣體或灰塵的環境下使用電動工具。

### **快速夾頭**

快速夾頭能讓你輕鬆轉緊或轉鬆鑽頭和螺絲起子頭。握住前套筒並推動速度控制裝置/開關扳機以開啟夾頭。

### **安裝起子頭及鑽頭**

在電動工具上進行任何維護的工作(如維修、更換工具等)，以及搬運和收納此機器之前，正逆轉開關須設定在中間位置，以免意外啟動電源造成傷害。

首先轉動前套筒，調整夾頭的開口，稍為大於你要使用的起子頭/鑽頭軸。將螺絲起子頭/鑽頭裝入夾頭。依照上述有關快裝夾頭的說明，鎖緊夾頭。

### **調整鑽頭軸速度**

以按壓開關扳機的力度，調整鑽頭軸速度。從零到最大值，讓你選擇最適合的速度。

### **改變轉向**

使用正逆轉開關(4)，可改變機器的轉向。

將正逆轉開關設定在中間位置，則無法啟動起停開關。

### **設定扭力**

使用扭力設定環(2)，可設定1-19級扭力，以便轉緊和轉鬆螺絲(設定值越高，扭力越大)。使用工具鑽孔前，先設定鑽孔符號。

### **磁性起子頭接桿**

你可將目前使用的起子頭及鑽頭，放在電動起子機/電鑽頂部的磁性起子頭接桿(8.)上，方便隨時拿取使用。

### **LED照明燈**

電動起子機內置LED照明燈，可照亮工作範圍。扣動開關扳機點亮照明燈，釋放開關扳機燈就會熄滅。

### **警告：夾住的危險**

不可用單手握住夾頭的前套筒，同時用電鑽起子機的動力打開或關閉夾頭開口，以免導致手被夾住的危險。

### **保養與清潔**

電鑽起子機必須保持乾淨及乾燥，以確保可正常及安全操作。清潔時可用軟布沾水擦掉碎屑。不可使用任何清潔劑或溶劑。

機器及其散熱孔務必保持乾淨，以確保可正常及安全操作。

此產品僅供居家使用，不適用於商業用途或專業測量。

請保留本手冊以備將來使用。

製造商：IKEA of Sweden AB

地址：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN (瑞典)

### 注意！

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。



切勿將電池和充電電池當生活垃圾處理！作為消費者，法律要求您在所在市政當局/社區的收集點或通過提供電池處理的商業實體處置所有電池和蓄電池，無論它們是否含有有害物質\*，以便以環保的方式處理它們。

\* 標有：Cd=鎘，Hg =汞，Pb =鉛



垃圾桶畫叉圖案表示產品不可當作家庭廢棄物丟棄。產品須依當地廢棄物規定丟棄處理。與家庭廢棄物分開擺放，可幫助減少送往焚化爐或掩埋場的廢棄物數量，並降低可能危害人體健康和環境的機會。請向IKEA客服部取得更多相關資訊。

# 한국어

## TRIXIG 트릭시그 전동 드라이버/드릴 리튬이온 12V

### 기술 사양 - 전동 드라이버/드릴

모델: TRIXIG 트릭시그

유형: P2202

공칭 전압: 10.8 Vdc

정격 전압: 12.0 Vdc

배터리 종류: 1.5Ah 리튬이온

### 충전 시간:

5.0V 1.0A 충전 전류를 사용하는 경우 - 충전 시간 360분 미만

5.0V 2.0A 충전 전류를 사용하는 경우 - 충전 시간 210분 미만

5.0V 3.0A 충전 전류를 사용하는 경우 - 충전 시간 150분 미만

척 용량: 0.8-10mm(1/32~3/8인치)

조절 가능한 회전력: 19+ 드릴

최대 경회전력: 약 16 Nm

최대 rpm(무부하 속도): 900/min

전동 드라이버 비트 홀더: 6.35mm(1/4인치)

무게: 약 1.035kg(2.282lbs) (드릴+배터리팩만 해당)

### 진동(EN 62841-1, EN 62841-2-1 기준):

철판에 드릴 사용 시

$a_{h,D} = 1.1 \text{m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{m/s}^2$

### 소음(EN 62841-1 기준):

음압레벨  $L_{pA} = 72 \text{dB(A)}$ ,  $K_{pA} = 5 \text{dB(A)}$

음향파워레벨  $L_{WA} = 80 \text{dB(A)}$ ,  $K_{WA} = 5 \text{dB(A)}$

### 기술 사양 - 배터리팩

유형: ICBL 10.8-16-USBC-P1

용량: 1.5Ah 리튬이온, 16,2Wh

입력: 5.0 Vdc/1.0-3.0A(USB-C)

충전식 리튬이온 배터리가 들어 있습니다. (그룹에 직렬로 연결된 INR19/66 리튬이온 배터리 3개)

### 실내전용

#### 권장 충전 등급:

5.0 Vdc/ 1.0-3.0A (유형 C), 충전 온도 0-50°C

### 부품

표시된 부품 번호는 제품 페이지의 전동 드라이버/드릴 이미지와 일치합니다.

1. 키레스척
2. 토크 조정기
3. 무단 변속 제어기/트리거
4. 회전 방향 스위치
5. LED 작업등
6. 배터리팩
7. 슬리브 앞부분
8. 자석 비트 홀더

## 주의사항:

USB-C 케이블 및 USB 충전기는 포함되어 있지 않습니다. 전동 드라이버/드릴 상자 내부에 TRIXIG 트릭시그 보조 배터리팩을 넣어둘 수 있는 여분의 수납칸이 있습니다.

## 사용 용도

본 무선 드라이버/드릴은 목재, 플라스틱, 연질 금속 재료에 드릴작업을 하고 나사를 조이거나 푸는 작업을 하는데 사용할 수 있습니다.

이 제품은 감각 또는 지적 역량이 부족하거나 경험과 지식이 부족한 사람 (어린이 포함)이, 이들의 안전을 책임지는 자의 감독 또는 제품 사용과 관련된 지시 없이 사용하기에 적합하지 않습니다.

어린이가 공구를 갖고 놀지 못하도록 감독이 필요합니다.

## 일반 안전 사항

### 전동공구 관련 일반 안전 사항



**경고!** 이 전동 공구와 함께 제공된 안전 경고, 지침, 그림 및 사양을 모두 읽으십시오. 아래 나열된 모든 지침을 따르지 않으면 감전, 화재 및/또는 심각한 부상이 발생할 수 있습니다.

### 나중에 참조할 수 있도록 모든 경고 및 지침을 저장하십시오.

경고에서 "전동 공구"라는 용어는 주전원으로 작동되는(유선) 전동 공구 또는 배터리로 작동되는(무선) 전동 공구를 의미합니다.

## 작업 공간 안전

- 작업 공간을 깨끗하고 밝게 유지해 주세요. 지저분하고 어두운 곳은 사고가 일어나기 쉽습니다.
- 폭발의 위험이 있는 곳에서 전동공구를 작동하면 안됩니다. 가연성 액체, 가스나 먼지가 있는 곳을 피하세요. 전동공구를 사용 중 스파크가 발생하면 연기나 먼지에 불이 붙을 수도 있습니다.
- 전동공구를 사용할 때는 어린이와 구경하는 사람들이 가까이 오지 못하도록 하세요. 집중력이 흐려지면 통제력도 떨어집니다.

## 전기 안전

- 전동공구의 플러그는 콘센트에 잘 맞아야 합니다. 플러그를 어떤 방법으로도 개조하지 마세요. 접지 전동공구에는 아답터 플러그를 사용하지 마세요. 개조하지 않은 오리지널 플러그와 이에 알맞는 콘센트를 사용해야 감전사고를 예방할 수 있습니다.
- 파이프, 방열기, 레인지와 냉장고와 같은 접지면과의 신체 접촉을 피하세요. 사용자의 몸이 접지 상태일 경우 감전의 위험이 증가합니다.
- 전동공구를 비가 오는 곳이나 습한 곳에 두지 마세요. 제품에 물이 닿으면 감전의 위험이 증가합니다.
- 코드를 잘못된 방법으로 사용하지 마세요. 전동공구의 전선을 잡아 당기고 플러그를 뺄 때 코드를 당겨 뽑으면 안됩니다. 코드는 열, 기름, 날카로운 끝과 움직이는 부품에서 멀리해 주세요. 손상되거나 꼬인 코드는 감전의 위험을 증가시킵니다.
- 전동공구를 실외에서 사용할 때는 실외에서 사용하기 적합한 연장 코드를 사용하세요. 실외에서 사용 가능한 연장코드는 감전의 위험을 줄여줍니다.
- 습한 곳에서 제품 사용이 불가피한 경우, 누전차단 기능의 장치 (RCD)와 함께 사용해야 합니다. RCD를 사용하면 감전의 위험이 줄어듭니다.

## 개인 안전

- a. 전동공구를 사용할 때는 항상 주의를 기울이고, 똑바로 주시하고 상식적으로 사용하도록 하세요. 피곤하거나 약물, 술 또는 의약품의 영향이 있는 경우 전동 공구를 사용하지 마세요. 잠시라도 주의를 잃으면 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.
- b. 안전 장비를 사용하세요. 눈에도 보호 장비를 착용하세요. 방진마스크, 미끄럼방지 신발, 헬멧, 귀마개 등과 같은 보호장비를 사용해야 부상을 예방할 수 있습니다.
- c. 의도하지 않은 공구 시동을 예방하세요. 플러그를 끌기 전, 전지를 연결하기 전, 공구를 들어올리거나 옮길 때 등 스위치가 꺼져 있는 상태인지 확인하세요. 손가락을 스위치에 건 상태에서 공구를 옮긴다거나 스위치가 켜진 상태에서 플러그를 끼우는 행동은 사고를 불러일으킵니다.
- d. 전동공구를 켜기 전에 조정 키나 렌치를 치우세요. 렌치나 키가 공구의 회전 부분에 달려 있을 경우 부상이 발생할 수 있습니다.
- e. 몸을 무리하게 뻗지 마세요. 안정된 자세와 균형을 유지하세요. 예상하지 못한 상황에서 전동공구에 대한 제어력이 떨어지지 않도록 하세요.
- f. 옷을 적절하게 입어야 합니다. 헐렁한 옷이나 액세서리를 착용하지 마세요. 머리, 옷과 장갑을 움직이는 부품에서 멀리 하세요. 헐렁한 옷, 액세서리, 긴 머리등은 움직이는 부품에 걸려 얹힐 수 있습니다.
- g. 먼지 배출 및 집진 장비와 연결하는 장치가 있을 경우 정확하게 연결한 후 올바르게 사용하세요. 이 장치들을 통해 위험요소를 가진 먼지들을 제거할 수 있습니다.
- h. 공구를 자주 사용하여 친숙한 사용자는 공구 안전 원칙을 준수하지 않을 수 있습니다. 부주의한 행동은 순식간에 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

## 전동공구의 사용과 관리

- a. 전동공구에 무리한 힘을 가하지 마세요. 작업용도에 알맞는 공구를 사용하세요. 용도에 맞는 공구를 사용해야 효과적이고 안전한 작업이 가능합니다.
- b. 전원 스위치가 작동하지 않으면 제품을 사용하지 마세요. 스위치로 조작이 불가능한 전동공구는 위험하니 반드시 수리를 받으세요.
- c. 설정을 조정하거나, 부품을 교환하거나 보관 할 때는 플러그를 뽑아주세요. 이와 같은 안전 조치는 전동 공구가 의도치 않게 시동되는 것을 방지해줍니다.
- d. 사용하지 않는 전동공구는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하세요. 조작 방법에 익숙하지 않은 사람이 전동공구를 작동하지 못하게 해주세요. 숙달되지 않은 사용자에게 전동 공구는 위험할 수 있습니다.
- e. 전동공구를 잘 관리하세요. 부품 파손, 구동 부위의 고정 상태, 구동 부위의 정렬 상태 등을 확인하고 기타 공구의 작동에 영향을 줄 수 있는 다른 환경도 점검하세요. 고장이 발견되면 사용하기 전에 수리를 받으세요. 많은 사고가 제대로 관리되지 않은 공구 때문에 발생합니다.
- f. 절단 도구는 날카롭고 청결하게 유지하세요. 날카로운 절단면을 가진 잘 정비된 절단 도구는 움직임이 무뎌지지 않고 제어하기도 쉽습니다.
- g. 전동공구와 액세사리, 툴비트 등을 관련 작업 조건과 작업특성을 고려해 본 설명서에 따라 사용하고 해당 전동공구에 맞게 사용하세요. 작업의 목적과 다른 공구를 사용하면 위험한 상황이 생길 수도 있습니다.
- h. 손잡이는 건조하고 깨끗하며 미끄럼지 않아야합니다. 미끄러운 손잡이와 표면으로 인해 예기치 않은 상황에서 안전 사고가 일어날 수 있습니다.

## 전지의 사용과 관리

- a. 제조사에서 명시한 충전기만 사용하여 충전하세요. 한 전지 제품에 안전한 충전기가 다른 전지에 사용했을 때는 화재가 일어날 수도 있습니다.
- b. 전동공구 전용의 전지만 사용하세요. 다른 제품을 사용할 경우, 부상과 화재의 위험이 있습니다.
- c. 전지를 사용하지 않을 때는 클립, 동전, 열쇠, 못, 나사, 기타 작은 금속 물건 등의 금속 물건들에서 멀리해 주세요. 전지 단자끼리 합선될 경우, 화상 또는 화재가 발생할 수 있습니다.

- d. 올바르지 않게 사용할 경우, 전지의 액체가 흘러 나올 수도 있습니다. 액체와의 접촉을 피하세요. 만약 사고로 접촉되었을 경우 즉시 물로 헹구어 내세요. 전지액이 눈과 접촉하면 치료를 받아야 합니다. 이 액체는 염증과 화상을 유발할 수 있습니다.
- e. 손상되거나 개조된 배터리 팩이나 도구를 사용하지 마십시오. 손상되거나 개조된 배터리는 예측할 수 없는 동작을 나타내어 화재, 폭발 또는 부상 위험을 초래할 수 있습니다.
- f. 배터리 팩이나 공구를 불이나 과도한 온도에 노출시키지 마십시오. 화재 또는 130°C 이상의 온도에 노출되면 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- g. 모든 충전 지침을 따르고 지침에 지정된 온도 범위를 벗어나 배터리 팩이나 공구를 충전하지 마십시오. 부적절하게 충전하거나 지정된 범위를 벗어난 온도에서 충전하면 배터리가 손상되고 화재의 위험이 높아질 수 있습니다.

## 서비스

- a. 반드시 동일한 교체용 부품을 사용하여 전문 기술자에게 서비스를 받으세요.  
이렇게 해야만 전동 공구의 안전이 확보될 수 있습니다.
- b. 손상된 배터리 팩을 수리하지 마십시오. 배터리 팩 수리는 제조업체 또는 개인 서비스 제공업체에 서만 수행해야 합니다.

## 기계 관련 안전 사항

### 드릴/드라이버 관련 안전 사항

#### 1. 모든 작업에 대한 안전 지침

- a. 임팩트 드릴링을 할 때는 귀마개를 착용하십시오. 소음에 노출되면 청력 손실이 발생할 수 있습니다.
- b. 절단 액세서리 또는 패스너가 숨겨진 배선과 접촉할 수 있는 작업을 수행할 때는 전동 공구의 절연 표면을 잡으십시오. "전류가 흐르는" 와이어와 접촉하는 절단 액세서리 또는 패스너는 전동 공구의 노출된 금속 부분을 전도성으로 만들어 작업자가 감전될 수 있습니다.

#### 2. 긴 드릴 비트 사용 시 안전 지침

- a. 드릴 비트의 최대 속도 등급보다 높은 속도로 작동하지 마십시오. 속도가 더 높을 경우 공작물에 닿지 않고 자유롭게 회전하여 비트가 구부러져 부상을 입을 수 있습니다.
- b. 항상 비트 톱이 공작물과 접촉한 상태에서 저속으로 드릴링을 시작하십시오. 속도가 더 높을 경우 공작물에 닿지 않고 자유롭게 회전하여 비트가 구부러져 부상을 입을 수 있습니다.
- c. 비트와 직선인 상태에서만 압력을 가하고 과도한 압력을 가하지 마십시오. 비트가 구부러져 파손되거나 제어력을 상실하여 부상을 입을 수 있습니다.

작업 시 에너지 배선이나 배관 등이 매립되어 있는지 확인하려면 적절한 탐지기를 사용하거나 지역에너지 관할 기관에 문의하세요. 전선과 닿으면 화재나 감전의 위험이 있습니다. 가스관이 손상되면 폭발로 이어질 수 있으며, 수도관이 파열되면 재산 피해와 감전의 위험이 있습니다.

공구가 차단되거나 움직이지 않는 경우 즉시 전동 공구를 끄십시오. 반동을 유발할 수 있는 높은 반응 토크에 대비하십시오. 이 도구는 다음과 같은 경우 차단됩니다.

- 전동 공구에 과부하가 걸렸을 때
- 또는 공작물에 끼였을 때.

공구를 꼭 잡아야 합니다. 나사를 조이거나 풀 때 강한 반동이 잠깐 발생할 수 있습니다.

**작업물을 잘 고정하세요.** 조임쇠 장치나 바이스에 작업물을 고정시키는 것이 손으로 고정하는 것보다 안정적입니다.

**작업장을 청결하게 유지하세요.** 소재가 혼합되면 특히 위험할 수 있습니다. 경금속 분진은 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다.

**사용하던 공구는 동작을 완전히 멈춘 후에 내려 놓아야 합니다.** 그렇지 않을 경우, 툴 헬더가 걸릴 수 있고 전동공구를 통제하기 어려워집니다.

**실수로 전원을 켜지 않도록 주의하세요.** 전지팩을 끼우기 전에는 트리거가 Off 위치에 있는지 확인해야 합니다. 트리거에 손가락을 건 채로 공구를 운반하거나, 전원이 켜진 공구에 전지팩을 끼우는 행위 등은 사고를 일으킬 수 있습니다.

## 충전기 관련 안전 경고



실내 전용

**사용하기 전 반드시 충전기, 전선, 플러그를 확인하세요.** 고장이 발견되면 충전기 사용을 즉시 중단하세요. 충전기 본체를 임의로 개봉하지 마세요. 해당 제품은 전문 기술자만이 수리할 수 있습니다. 충전기, 전선, 플러그가 파손되면 감전의 위험이 있습니다.

**전지 충전기를 가연성 물건(종이, 텍스타일 등) 근처에서 사용하지 마세요.** 전지 충전기의 발열로 인한 화재의 위험이 있으니 주의하세요.

## 진동 및 소음 정보

### 진동 및 소음 수준

이 사용 설명서에 명시된 진동 및 소음 방출 수준은 EN 62841의 표준화된 테스트에 따라 측정되었습니다. 이 설명서에 언급된 응용 분야에 공구를 사용할 때 이 수준은 한 공구를 다른 공구와 비교하고 진동 및 소음에 대한 노출에 대한 예비 평가로 사용할 수 있습니다. 그러나 다른 응용 분야에 공구를 사용하거나 다른 액세서리 또는 제대로 관리되지 않은 액세서리와 함께 사용하면 노출 수준이 크게 높아질 수 있습니다.

진동 및 소음에 대한 노출 수준을 추정할 때는 공구가 꺼져 있거나 작동 중이지만 사용하지 않는 시간도 고려해야 하며, 이는 전체 작업 기간 동안 노출 수준을 크게 줄일 수 있기 때문입니다. 공구와 액세서리를 유지 관리하고 손을 따뜻하게 유지하고 작업을 정돈하여 진동 및 소음의 영향으로부터 자신을 보호하십시오.

### 다른 위험

전동 공구를 정해진 대로 사용하더라도 다른 위험 요소를 모두 제거 할 수는 없습니다. 전동 공구의 구성 및 설계와 관련하여 다음과 같은 위험이 발생할 수 있습니다.



효과적인 방진 마스크를 착용하지 않으면 폐가 손상됩니다.



효과적인 청력 보호구를 착용하지 않으면 청력이 손상됩니다.



전동 공구를 장기간 사용하거나 적절하게 취급 및 유지 관리하지 않을 경우 전동으로 인해 건강이 손상됩니다.



**경고!** 이 전동 공구는 작동 중에 전자기장을 생성합니다. 경우에 따라 이 전자기장은 능동 또는 수동 의료용 이식 장치의 기능을 방해할 수 있습니다. 심각하거나 치명적인 부상의 위험을 줄이려면 의료용 이식 장치를 사용하는 사람이 이 기계를 작동하기 전에 의사 및 의료용 이식 장치 제조업체와 상의하는 것이 좋습니다.

## 조립

전동 공구를 정비(관리, 도구 교체 등)하거나 이동, 수납하기 전에는 회전 방향 스위치가 중간에 위치하는지 반드시 확인해주세요. 실수로 작동되면 부상의 위험이 있습니다.

## 전동 드라이버/드릴 충전

다음의 안전 사항을 읽고 충전 방법에 따라 충전하세요.

USB-C 케이블 끝을 배터리팩의 USB-C 포트(그림 2)(A)에 연결합니다. 다른 USB 케이블 끝을 전동 드라이버/드릴을 충전하기에 충분한 전력을 제공할 수 있는 USB 충전기 또는 USB 포트에 연결합니다. 배터리팩이 전원에 연결되어 있으면 배터리팩 뒷면의 다이오드에 불이 들어와 충전 상태를 나타냅니다.

- 조명 깜빡임 - 충전 진행 중
- 2분간 점등/조명 깜빡임 - 충전 완료

케이블이 꼬이거나 꺾이지 않도록 주의하세요. 배터리팩이 완전히 충전된 후 배터리팩을 전원에 계속 연결해두면 다이오드의 조명이 2분 동안 켜져 있다가 꺼집니다. 충전이 완료되면 충전 케이블을 분리한 다음 배터리팩을 전동 드라이버/드릴의 홀더에 밀어 넣습니다. 이제 전동 드라이버/드릴을 사용할 수 있습니다. 전동 드라이버/드릴을 사용하지 않을 때는 배터리팩을 분리하여 적당한 장소에 보관하세요. 일반적인 용도로 사용하면 본 전동 드라이버는 수백회 충전하여 사용할 수 있습니다.

**주의!** 충전 시 배터리에 열감이 느껴집니다. 영하의 온도에서는 배터리를 충전하지 않는 것이 좋습니다. 제품을 사용하지 않더라도 시간이 지나면서 배터리가 점차 방전될 수 있습니다.

## 배터리팩의 전원 상태 확인

배터리팩 뒷면의 버튼을 짧게 누르면 배터리팩의 전원 상태를 확인할 수 있습니다. 다이오드에 조명이 켜져 잔량을 나타냅니다.

- 다이오드 3개 켜짐 - 완전 충전
- 다이오드 2개 켜짐 - 중간 정도 충전
- 다이오드 1개 켜짐 - 배터리 부족

잠시 후, 다이오드의 조명이 꺼집니다.

**주의:** 제품과 함께 제공된 배터리는 테스트 용도로만 충전되어 있으며, 처음 사용 전 완충해야 합니다.

TRIXIG 트릭시그 전동 드라이버/드릴과 TRIXIG 트릭시그 배터리팩은 함께 사용하도록 설계되었습니다.

이 배터리팩으로 다른 제조업체의 무선 공구에 전원을 공급하지 마세요.

리튬이온 배터리는 '전자셀보호장치(Electronic Cell Protection, ECP)'에 의해 완전 방전되지 않습니다. 배터리가 완전 방전되면 보호 회로로 인해 공구의 전원이 꺼져 더 이상 작동되지 않으며, 끼워진 도구도 회전을 멈춥니다.



경고 공구의 전원이 자동으로 꺼진 후에 켜/끔 스위치를 계속 누르고 있지 마세요. 배터리가 손상될 수 있습니다.



경고 불연성 표면에서 배터리를 충전하세요. 배터리는 8시간 이상 충전하면 안 됩니다.

## 사용 방법

### 도구의 사용

**주의:** 제품 사용 시, 화기구 안쪽으로 모터의 스파크가 보일 수 있습니다. 이 현상은 모터가 작동할 때 모터안의 부품이 마찰하여 발생하는 정상적인 반응으로, 전동 공구의 기능에는 전혀 영향을 주지 않습니다. 하지만 스파크가 튀어 화재가 발생할 수 있으니, 인화성 물질이나 가스 근처 또는 먼지가 많은 곳에서는 절대 사용하지 마세요.

### 키레스척

드릴의 키레스척을 사용하면 전동 드라이버/드릴 비트를 간편하게 조이거나 빼 수 있습니다. 슬리브 앞부분을 잡고 속도 제어기/트리거를 눌러 척을 열거나 닫으세요.

### 비트 및 드릴 장착

전동 공구를 정비(관리, 도구 교체 등)하거나 이동, 수납하기 전에는 회전 방향 스위치가 중간에 위치하는지 반드시 확인해주세요. 실수로 작동되면 부상의 위험이 있습니다.

슬리브 앞부분을 돌리면서 척을 조절해 입구를 사용하려는 전동 드라이버/드릴 비트의 몸통보다 살짝 크게 벌립니다. 전동 드라이버/드릴 비트를 척에 끼웁니다. 위의 설명(키레스척)에 따라 전동 드라이버/드릴에 척을 조입니다.

### 축 속도 조절

트리거를 누르는 정도로 축의 속도를 0에서 최대로 조절할 수 있습니다. 덕분에 필요한 작업에 맞는 최적의 속도를 선택할 수 있습니다.

### 회전 방향의 설정

회전 방향 스위치(4)를 사용해서 회전의 방향을 반대로 설정할 수 있습니다.

트리거 스위치를 잠그려면, 오른쪽과 왼쪽 스위치의 중간 위치에 오도록 선택 스위치를 밀어줍니다.

### 토크 조절하기

토크 설정 링(2)을 원하는 위치로 돌리세요. 1-19번은 나사를 조이거나 푸는 데 사용됩니다 (숫자가 높을수록 더 세게 조여집니다). 드릴 기호를 선택한 후 드릴 작업을 시작하세요.

## **자석 비트 홀더**

사용 중인 비트와 드릴을 전동 드라이버/드릴 위쪽에 있는 자석 비트 홀더(8.)에 껴두고 작업하는 동안 가까이에 두고 사용할 수 있습니다.

## **LED 작업등**

전동 드라이버에는 작업 영역을 비추는 LED 작업등이 장착되어 있습니다. 트리거 스위치를 누를 때마다 LED 작업등이 켜지고 트리거 스위치에서 손을 떼면 꺼집니다.

## **경고: 끼임 위험**

척 슬리브 앞부분을 한손으로 든 채 드라이버/드릴의 모터를 사용해서 척 죠를 여닫지 마세요.

## **관리 및 세척**

제품을 청결하게 유지하고 물에 젖지 않도록 해야 정상적으로 안전하게 작동합니다. 부드러운 천에 물을 묻혀 이물질을 닦아내세요. 세제나 용액을 사용하지 마세요.

안전하고 올바른 작동을 위해 반드시 공구와 환기구를 청결하게 유지해주세요.

본 제품은 가정용으로, 전문가가 수행하는 상업적 또는 공인된 측정에 사용하도록 제작되지 않았습니다.

나중에 사용할 수 있도록 이 설명서를 보관하십시오.

**제조업체: IKEA of Sweden AB**

**주소: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



배터리와 충전식 배터리는 가정 쓰레기가 아닙니다! 소비자는 법에 따라 유해 물질\*이 포함되어 있는지 여부에 관계없이 모든 배터리 및 축압기를 지방 자치 단체/이웃의 수거 장소 또는 배터리 폐기를 제공하는 상업 기관을 통해 폐기하여 환경적으로 건전한 방식으로 폐기할 수 있도록 해야 합니다.

\* 다음과 같이 표시: Cd = 카드뮴, Hg = 수은, Pb = 납



바퀴달린 통과 엑스포시는 제품을 일반 가정용 쓰레기와는 분리하여 배출해야 한다는 것을 알려주는 표시입니다. 거주 지역의 분리 배출관련 환경 규정에 따라 재활용을 해야 하는 제품입니다. 이렇게 표시된 제품들을 일반 가정용 쓰레기와 구분하는 작업을 통해, 소각장이나 매립지로 보내는 쓰레기의 양을 줄이는 데 기여하고, 인류의 건강과 환경에 미치는 잠재적인 악영향을 최소화할 수 있습니다. 자세한 사항은 이케아 매장으로 문의해 주세요.

# 日本語

TRIXIG/トリクシグ 電動ドライバー/ドリル リチウムイオンバッテリー12V

技術仕様 - 電動ドライバー/ドリル

型式 : TRIXIG/トリクシグ

タイプ : P2202

公称電圧: 10.8V DC

定格電圧: 12.0V DC

バッテリータイプ: 1.5Ah リチウムイオンバッテリー

充電時間 :

5.0V、1.0Aの電流で充電時 - 360分以内

5.0V、2.0Aの電流で充電時 - 210分以内

5.0V、3.0Aの電流で充電時 - 150分以内

チャック把握範囲: 0.8~10mm (1/32"~3/8")

トルク調整: 19段階 + ドリル

最大ハードトルク: 約16 Nm

最大回転数(無負荷時) : 900/min

ビットホルダー: 6.35mm (1/4")

重量: 約1.035kg(2.282lbs) (ドリル+バッテリーパックのみ)

振動 (EN 62841-1、EN 62841-2-1に準拠) :

金属への穿孔

$a_{h,D} = 1.1 \text{m/s}^2$ 、 $K = 1.5 \text{m/s}^2$

騒音 (EN 62841-1に準拠) :

騒音プレッシャーレベル  $L_{PA} = 72 \text{dB}$  (A)、 $K_{PA} = 5 \text{dB}$  (A)

騒音パワーレベル  $L_{WA} = 80 \text{dB}$  (A)、 $K_{WA} = 5 \text{dB}$  (A)

テクニカルデータ - バッテリーパック

タイプ : ICBL 10.8-16-USBC-P1

容量 : 1.5Ah Lithium-Ion, 16,2Wh

入力 : 5.0 Vdc / 1.0-3.0A (USB-C)

充電式リチウムイオンバッテリーセル搭載。

(INR19/66リチウムイオンセル3点を直列にグループ接続したもの)

室内専用。

推奨充電定格 :

5.0V DC / 1.0~3.0A (タイプC)、充電温度 0~50°C

本製品の機能

下記の番号は、図解ページに記載の製品イラストに振られた番号に対応しています。

1. キーレスチャック
2. トルク調節ダイヤル
3. 無段变速トリガー
4. 正逆転切替スイッチ
5. LEDワークライト
6. バッテリーパック
7. スリーブ
8. マグネットビットホルダー

## 注意！

USB-CケーブルとUSB充電器は付属しておりません。ドライバー/ドリルのボックス内に、予備のTRIXIG/トリクシグ バッテリー/パックを収納するスペースがあります。

## 用途

このコードレススクリュードライバー/ドリルは、木材、プラスチック、軟鋼材への穴開け作業や、ネジの取り付け・取り外し作業にお使いいただけます。

本製品は、感覚や知力が低下している方、経験や知識が不足している方（子どもを含む）の使用には向いていません。万一、これらの方が使用される場合には、使用者の安全を確保できる監督者が必ず監視または指示を行ってください。

子どもが本製品で遊ばないように注意してください。

## 安全上のご注意

### 電動工具の使用に関する安全上のご注意



**警告！この電動工具に付属のすべての安全上の警告、指示、図、仕様をお読みください。**以下のすべての指示に従わないと、感電や火災が発生したり、重篤なけがを負ったりする恐れがあります。

### すべての警告と指示は、後で参照できるよう保管してください

この警告にある「電動工具」という用語は、主電源操作型(コード付き)電動工具またはバッテリー駆動型(コードレス)電動工具を指します。

### 作業環境に関する安全上の注意事項

- 作業場は整理整頓し、明るくしてください。作業場が暗かったり、散らかっていると事故の原因になります。
- 可燃性の液体やガス、粉じんのあるところで電動工具を使用したり、充電したりしないでください。電動工具から発生する火花が液体やガス、粉じんに引火し、爆発するおそれがあります。
- 電動工具の使用中は、そばに子どもや作業者以外の人を近づけないでください。気が散ると、事故やケガを引き起こしやすくなります。

### 電気に関する安全上の注意事項

- 電動工具のプラグは、コンセントに適合している必要があります。プラグは絶対に改造しないでください。アース（接地）して使用する電動工具の電源コードのプラグにさらにアダプター/プラグを使用しないでください。感電の危険を減らすため、プラグとコンセントが適合しているか確認し、プラグは絶対に改造しないでください。
- 感電事故を防ぐため、電動工具の使用中は、身体をアース（接地）されているものに接触させないようにしてください（例えばパイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）。
- 雨のあたる場所や湿気の高い場所では使用しないでください。電動工具の内部に水が入ると、感電の危険があります。
- 電源コードを乱暴に扱わないでください。コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。コードを熱源や油、刃物、工具の可動部などに近づけないでください。コードが損傷したり、からまるると、感電の危険があります。
- 電動工具を屋外で使用する場合は、屋外用延長コードをお使いください。感電の危険を減らせます。
- どうしても湿度の高い場所で電動工具を使って作業しなければならない場合は、漏電遮断機(RCD)をご使用ください。漏電遮断機を使用することで感電の危険性を減らせます。

## 事故防止のための注意事項

- a. 電動工具を使用する際は、取扱方法や作業手順、周りの状況などに十分注意して慎重に作業してください。疲れている場合や、薬を服用している場合、お酒を飲んだ場合には、電動工具を使用しないでください。集中力が欠けると、重大なケガにつながるおそれがあります。
- b. ケガを防ぐため、作業時には安全保護具と保護メガネを着用してください。状況に応じて、防塵マスクや滑り止め付き安全靴、ヘルメット、防音保護具を着用してください。
- c. 不意な始動を避けるため、プラグを電源に差し込む際やバッテリーパックを装着する際、電動工具をつかんだり持ち運ぶ際は、あらかじめ電動工具のスイッチが切れていることを確認してください。スイッチに指を掛けて運んだり、スイッチが入った状態でプラグを電源に差し込まないでください。事故につながるおそれがあります。
- d. スイッチを入れる前に、調節キーやレンチはすべて取り外してください。電動工具の回転部分にキー やレンチをつけたままにすると、ケガをするおそれがあります。
- e. 無理な姿勢で作業をしないでください。常に足元をしっかりとさせ、バランスを保つようにしてください。予期しない状況でも電動工具を制御しやすくなります。
- f. 作業はきちんとした服装で行ってください。だぶだぶの衣服やアクセサリーは、工具の回転部に巻き込まれるおそれがあるので、着用しないでください。衣服や手袋、髪の毛などが工具の回転部に巻き込まれないよう注意してください。
- g. 工具を集じん機に接続する場合は、工具と集じん機が正しく接続されているか、また集じん機が正しく作動しているか確認してください。集じん機を使用することで、粉じんや削りくずの飛散を防ぐことができ、より安全に作業できます。
- h. 工具を頻繁に使って扱いに慣れてきても、楽観的になって安全原則を無視しないでください。不注意な行動は瞬時に重大なケガにつながる危険があります。

## 電動工具の使用に関する注意事項

- a. 電動工具の無理な使い方はしないでください。用途に適した電動工具を使用してください。用途に合った工具を適切に使用することで、効率よく安全に作業ができます。
- b. スイッチのオン/オフができない場合は使用しないでください。スイッチが故障したまま使うと大変危険です。必ず修理をしてください。
- c. 不意な始動を防ぐため、電動工具の調整や保管、アクセサリーの交換の際には、必ず電源からプラグを抜き、バッテリーパックを取り外してください。
- d. 電動工具を使用しないときは、お子さまの手の届かない場所に保管してください。電動工具の扱いに慣れていない人や、この取扱説明書の注意事項を理解していない人には操作させないでください。初心者がひとりで操作すると危険です。
- e. 電動工具は定期的に手入れや点検を行ってください。可動部分のかみ合わせや締め付け具合、部品の破損など、作動に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。破損箇所や故障箇所のある場合は、修理してから使用してください。お手入れや点検を怠ると、事故につながるおそれがあります。
- f. 刃のついたパーツは常に手入れをして、よく切れる状態を保ってください。刃の切れ味がよいと、材料にひっかかりにくくなり、作業がやすくなります。
- g. 電動工具やアクセサリー、ツールビットは使用上の注意に従って正しくお使いください。アクセサリーやツールビットは各電動工具に対応したものをお使いください。電動工具を使用する際は、あらかじめ作業環境を整え、慎重に作業を行ってください。電動工具を本来の用途以外に使用すると、重大なケガにつながる危険があります。
- h. ハンドルや把持面は、常に乾いていてきれいな、油脂の付着していない状態を維持してください。ハンドルや把持面がすべりやすいと、予期せぬ状況で工具を安全に操作・制御できません。

## バッテリーパックの使用に関する注意事項

- a. バッテリーパックを充電する際は、必ずメーカー指定の充電器を使用してください。指定充電器以外の充電器を使用すると、火災につながるおそれがあります。
- b. 電動工具には指定の専用バッテリーパック以外は使用しないでください。指定外のバッテリーパックを使用するとケガや火災の原因となります。

- c. バッテリーパックを保管する際は、クリップやコイン、鍵、釘、ネジなどの金属と接触させないようにしてください。金属でバッテリーパックのプラス極とマイナス極が接続されると、バッテリー一パックがショートしてヤケドや火災につながるおそれがあります。
- d. バッテリーパックを誤って使用すると、液漏れするおそれがあります。漏れた液には直接触れないでください。万が一皮膚についた場合は、すぐに水で洗い流してください。目に入った場合は、すぐに水で洗ってから、医師の診察を受けてください。炎症やヤケドを引き起こすおそれがあります。
- e. 破損または改造されたバッテリーパックや工具は使用しないでください。破損または改造されたバッテリーは、予期しない動作により火災、爆発、けがの危険をもたらす恐れがあります。
- f. バッテリーパックや工具を火や過度の高温にさらさないでください。火や130°Cを超える高度にさらされると、爆発を引き起こす恐れがあります。
- g. すべての充電手順に従ってください。バッテリーパックや工具は、手順で指定された温度の範囲外では充電しないでください。不適切に、または指定された範囲外の温度で充電すると、バッテリーが破損し、火災の危険性が高まる恐れがあります。

## サービス

- a. 修理は必ず専門店に依頼し、交換部品は純正品のみをご使用ください。  
本製品を安全にお使いいただくために、必ずこの注意事項を守ってください。
- b. 破損したバッテリーパックは絶対に修理しないでください。バッテリーパックの修理は、必ず製造元または認定サービス代理店のみが行ってください。

## 製品仕様および安全上のご注意

### スクリュードライバー/ドリルの使用に関する安全上のご注意

#### 1. すべての操作に関する安全上の注意

- a. ドリル使用時に衝撃が強い場合は、イヤープロテクターを使用してください。騒音にさらされると、難聴の原因となる恐れがあります。
- b. 作業中に切断用付属品や留め具が表面から見えない配線に接触する恐がある場合は、絶縁されたグリップ部を持って電動工具を使用してください。切断用付属品や留め具が通電中の配線に接触すると、電動工具の金属表面が導電性を持ち、使用者が感電する恐れがあります。

#### 2. 長いドリルビットを使用する際の安全上の注意

- a. ドリルビットの最大速度定格よりも高速で操作しないでください。高速では、対象物に接触しないままだ回転させると、ビットが曲がり、けがをする恐れがあります。
- b. ドリル時は、必ずビットの先端を対象物に当て、低速で開始してください。高速では、対象物に接触しないままだ回転させると、ビットが曲がり、けがをする恐れがあります。
- c. 常にビットを真っ直ぐにした状態でのみ圧力をかけてください。過度の圧力をかけないでください。ビットが曲がって破損したり、制御が利かなくなったりし、けがをする恐れがあります。

**専用の検知器を使って、作業する箇所に電気配線やガス管、水道管などがないか確認してください。**この作業に関してご不明な点がある場合は、お近くの専門業者にお問い合わせください。電気配線に接触すると、火災や感電につながるおそれがあります。ガス管を破損すると、爆発を引き起こすおそれがあります。水道管を破損すると、家財の水濡れや感電につながるおそれがあります。

**電動工具がロックしたり動かなくなったりした場合は、直ちに電源を切りってください。**反動の原因となるような高い反作用トルクに注意してください。工具は、次の場合に動かなくなります。

- ・過負荷となった場合
- ・対象物に挟まった場合

**工具はしっかりと持ってください。**ネジの取り付け・取り外しの作業中に突然キックバックが起きるおそれがあります。

**材料はしっかりと固定してください。**クランプや万力を使うと、手で押さえるよりも、安全にしっかりと固定できます。

**作業場は常に整理整頓してください。**さまざまな原材料が散らかった作業場では、原材料が混ざって思わぬ事故につながる危険があります。軽合金から発生する粉じんが可燃性のガスなどに引火すると、爆発の危険もあります。

**必ず工具が完全に停止したことを確認してから、工具を材料から外して降ろしてください。**工具が動いているうちに外そうとすると、ビットが材料に挟まり、工具を制御できなくなる危険があります。

**不意な始動を避けるため、バッテリーパックを装着する前にトリガーがしっかりとロックされていることを確認してください。**トリガーに指を掛けて運んだり、スイッチが入った状態でバッテリーパックを装着しないでください。これらの行為は事故の原因となります。

#### バッテリー充電用ACアダプターの使用に関する安全上のご注意



室内専用。

雨のあたる場所や湿気の高い場所では使用・保管しないでください。ACアダプターの内部に水が入ると、感電の危険性が高まります。

**このACアダプターで他のバッテリーを充電しないでください。**このACアダプターは、本電動工具に内蔵のバッテリーの充電にのみ使用できます。指定された用途以外に使用すると、火災や破裂の危険があります。

**ACアダプターはいつもきれいな状態でご使用ください。**ゴミやホコリが付着すると、感電の危険があります。

#### 振動・騒音情報

##### 振動・騒音レベル

本書に記載の振動・騒音レベルは、EN62841で標準化された試験により測定されています。この情報は、ある工具を別の工具と比較する際に、また、本書に記載の用途で工具を使用する際の振動と騒音への暴露の予備評価として、使用できます。ただし、他の用途に工具を使用する場合、別の付属品を使用する場合、保守が不十分な場合などは、暴露レベルが大幅に増加する恐れがあります。

振動・騒音への暴露レベルを推定する際は、工具の電源が切られていた時間や、工具を使用せずに電源を入れたままにしていた時間も考慮する必要があります。工具とその付属品を保守し、手を冷やさず、作業の段取りを整えることで、振動や騒音の影響から身を守ってください。

#### その他の危険

**電動工具を指示どおりに使用しても、他のすべての危険を排除することはできません。**電動工具の構造と設計に関連して、次の危険が発生する恐れがあります。



効果的な防塵マスクを着用しない場合、肺の損傷。



効果的な聴覚保護具が着用されていない場合、聴覚障害。



電動工具を長期間使用している場合や適切に取り扱い保守していない場合、振動による健康被害。



**警告！** この電動工具の動作中は、電磁界が発生します。この電磁界は、状況によっては医療用インプラントに能動的または受動的に干渉する恐れがあります。重篤なけがや致命傷を防止するため、医療用インプラントを使用している方は、この工具を操作する前に医師および医療用インプラントの製造元に相談するよう推奨します。

#### 工具の取り扱い

工具を取り扱う際（メンテナンスやツールの交換など）や、移動・保管する際は、正逆転切替スイッチを真ん中で止めてトリガーをロックしてください。誤ってトリガーを押し、工具が不意に始動するとケガをする危険があります。

#### 電動ドライバー/ドリルの充電方法

安全に関する注意事項をご確認の上、充電方法に従ってください。

USB-Cケーブルの一方の端子をバッテリーパックのUSB-Cポート（図2(A)）に接続します。USBケーブルの他方の端子を電気が供給されるUSBポートにつなぎます。バッテリーパックが電源に接続されている間は、バッテリーパックの裏面のライトが次のように充電状況を表示します。

- 点滅 - 充電中

- 2分間点灯/消灯 - 充電完了

コードに結び目や折り目ができるないように注意してください。バッテリーパックの充電が完了した後も電源に接続したままにすると、ライトは2分間点灯した後、消えます。充電が完了したら、充電ケーブルを外して、バッテリーパックをドライバー/ドリルのホルダーに入れてください。これでドライバー/ドリルが使える状態になります。ドライバー/ドリルを使用しないときは、ドライバー/ドリルからバッテリーパックを取り出して、適切な場所に収納してください。本製品は、通常の方法で使用した場合、数百回の充電が可能です。

**注意！** 充電中のバッテリーは熱くなりますのでご注意ください。氷点下での充電は避けてください。バッテリーは使用しなくとも徐々にバッテリー残量が減少します。

#### バッテリーパックの状態の確認

バッテリーパックの裏面のボタンを軽く押して、バッテリーパックの状態を確認できます。ライトが次のように充電状況を表示します。

- ライトが3つ点灯 - フル充電

- ライトが2つ点灯 - 中程度充電

- ライトが1つ点灯 - 低充電

ライトはその後すぐに消えます。

**注意：**付属のバッテリーは、お買い上げ時にはテスト用の電力しか充電されていません。初めてご使用になる前に、必ずフル充電してください。

TRIXIG/トリクシグ バッテリーパックは、TRIXIG/トリクシグ 電動ドライバー/ドリル専用です。

このバッテリーパックは、ほかのメーカーのコードレスツールには絶対使用しないでください。

本製品のリチウムイオンバッテリーには、バッテリーの過負荷を防ぐ「電子セル保護システム（ECP機能）」が付いています。バッテリーが空になると、保護回路により電源が自動的に切れ、ビットの回転が止まります。



**警告：**電源が自動的に切れたあとに電源スイッチ（トリガー）を押し続けないでください。バッテリーが損傷するおそれがあります。



**警告：**充電は、まわりに燃えやすいものがない安全な場所で行ってください。バッテリーは8時間以上充電しないでください。

## 使用方法

### 工具の使用方法

**注意：**使用中にモーター部分から火花が発生することがあります。これはモーター部品の摩擦によって起きる普通の現象です。電動工具の機能には問題ありません。ただし、安全のため、可燃性の液体やガス、粉じんのあるところでは電動工具を使用しないでください。電動工具から発生する火花が液体やガス、粉じんに引火し、爆発するおそれがあります。

### キーレスチャック

このドリルはビットの交換が簡単にできるキーレスチャック式です。スリーブを握り、スピード調整/トリガーを押して、チャックを開閉できます。

### ビットとドリルの装着

工具を取り扱う際（メンテナンスやツールの交換など）や、移動・保管する際は、正逆転切替スイッチを真ん中で止めてトリガーをロックしてください。誤ってトリガーを押し、工具が不意に始動するとケガをする危険があります。

スリーブを回してビットの軸径よりやや大きめにチャックを開けます。チャック内部にビットをセットします。前述の手順（キーレスチャックの項参照）に従ってチャックを閉め、ビットを取り付けます。

### 回転スピードの調整

トリガーの押し加減で回転スピードを0から最高速まで自由に調節できます。作業によって最適なスピードを選べます。

### 回転方向の切り替え

正逆転切替スイッチ(4)で回転方向を変えられます。

正逆転切替スイッチを真ん中で止めると、トリガーがロックされます。

### トルクの調整方法

トルク調節ダイヤル(2)を回して、トルク値を設定します。ネジの取り付け・取り外し作業を行うときは、ダイヤルを1から19の間でセットしてください（トルク値が高いほど締め付け力が強くなります）。穴開け作業を行うときは、ダイヤルをドリルマークの位置にセットしてください。

### マグネットビットホルダー

ドライバー/ドリル上部のマグネットビットホルダー（8）で、使用しているビットやドリルを作業中に手元に置いておくことができます。

## LEDワークライト

ワークエリアを照らすLEDワークライトを内蔵しています。トリガースイッチを握るたびにLEDワークライトが点灯し、トリガースイッチを放すと消えます。

## 警告：ケガの危険があります

スリーブを片手で握った状態で電源を入れ、ドリルの回転力でチャックの開閉を行わないでください。指が回転部分に挟まれてケガをする危険があります。

## メンテナンスとお手入れ

本製品を正しく安全にお使いいただくために、水準器は常に汚れなく乾いた状態で使用・保管してください。水で湿らせた柔らかい布でゴミや汚れを拭き取ってください。洗剤や溶剤は使用しないでください。

正しく安全に作業を行うため、本体と通風口はいつもきれいにしてください。

本製品は業務用ではなく、家庭で使用することを想定しています。商業用、または専門業者による計測などには使用できません。

本書は後日参照できるよう保管してください。

製造元：IKEA of Sweden AB（イケア・オブ・スウェーデンAB.

所在地：Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



バッテリーは、充電式も含めて、家庭ごみとして廃棄できません。消費者は、有害物質\*の有無にかかわらず、すべてのバッテリーと蓄電池を環境に配慮した方法で廃棄できるよう、自治体/地域の収集場所またはバッテリーの廃棄を行う営利団体を通じて廃棄することが法律で義務付けられています。

\*次の記号が記載されています：Cd=カドミウム、Hg=水銀、Pb=鉛



「Crossed-out wheeled bin」マークは、廃棄する際に一般の家庭ゴミと区別する必要があることを意味しています。このマークの付いた製品は、お住まいの地域の分別ルールに従ってリサイクルに出してください。一般的家庭ゴミと分けてリサイクルすることで、焼却炉やゴミ埋め立て施設に持ち込まれるゴミの量を削減できるうえ、健康や環境への潜在的な負荷を軽減できます。詳しくは、お近くのイケアストアにお問い合わせください。

使用済の充電式バッテリーは、日本国内のどのイケアストアでも回収いたします。

# Bahasa Indonesia

## Obeng/bor Li-ion TRIXIG 12V

### SPESIFIKASI TEKNIS - OBENG/BOR

**Model:** TRIXIG

**Tipe:** P2202

**Tegangan nominal:** 10.8 Vdc

**Tegangan maksimum:** 12.0 Vdc

**Jenis Baterai:** 1.5 Ah Lithium-Ion

**Waktu pengisian:**

Jika Anda menggunakan arus pengisian daya 5.0V 1.0A – waktu pengisian <360 menit

Jika Anda menggunakan arus pengisian daya 5.0V 2.0A – waktu pengisian <210 menit

Jika Anda menggunakan arus pengisian daya 5.0V 3.0A – waktu pengisian <150 menit

**Kapasitas klem chuck:** 0.8 - 10 mm (1/32 "-3/8")

**Torsi yang dapat disesuaikan:** 19 + pengeboran

**Maks. torsi keras:** kira-kira 16 Nm

**Maks. rpm (kecepatan tanpa beban):** 900/min

**Tempat untuk mata obeng:** 6.35 mm (1/4")

**Berat:** kira-kira 1.035 kg (2.282 lbs) (hanya bor+baterai)

### Getaran (menurut EN 62841-1, EN 62841-2-1):

Mengebor logam

$a_{h,D} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K=1.5 \text{ m/s}^2$

### Kebisingan (menurut EN 62841-1):

Tingkat tekanan kebisingan  $L_{pA} = 72 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{pA} = 5 \text{ dB (A)}$

Tingkat daya kebisingan  $L_{WA} = 80 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{WA} = 5 \text{ dB (A)}$

### DATA TEKNIS - PAKET BATERAI

**Tipe:** ICBL 10.8-16-USBC-P1

**Kapasitas:** 1.5Ah Lithium-Ion, 16,2Wh

**Input:** 5.0 Vdc / 1.0-3.0A (USB-C)

**Sel baterai Li-Ion isi ulang di dalam.**

(Tiga sel Li-ion INR19/66 terhubung ke grup secara seri)

Hanya untuk penggunaan dalam ruang.

### Peringkat pengisian daya yang disarankan:

5.0 Vdc / 1.0-3.0A (tipe C), suhu pengisian daya 0-50°C

### Fitur produk

Penomoran produk fitur yang ditampilkan mengacu pada ilustrasi obeng / bor pada halaman grafis.

1. Bindu tanpa kunci
2. Pengaturan putaran
3. Pengatur/pemicu variabel kecepatan tak terhingga
4. Tombol arah rotasi
5. Lampu kerja LED
6. Baterai
7. Sarung depan
8. Tempat mata bor bermagnet

## CATATAN!

Kabel USB-C dan pengisi daya USB tidak disertakan. Terdapat kompartemen penyimpanan tambahan di dalam kotak obeng/bor untuk paket baterai TRIXIG tambahan.

## AREA PENGGUNAAN

Obeng/bor tanpa kabel ini dapat digunakan untuk pengeboran di kayu, plastik dan bahan logam lunak, dan untuk mengencangkan / mengendurkan sekrup. Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan kemampuan sensorik atau mental kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka. Anak-anak harus diawasi untuk memastikan bahwa mereka tidak bermain dengan alat.

## PETUNJUK UMUM KESELAMATAN

### Petunjuk umum keselamatan untuk power tools



**PERINGATAN! Baca semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi, dan spesifikasi yang disertakan bersama alat listrik ini.** Kegagalan untuk mengikuti semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

### Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk referensi di masa mendatang

Istilah "alat listrik" dalam peringatan mengacu pada alat listrik yang dioperasikan dengan listrik (kabel) atau alat listrik yang dioperasikan dengan baterai (nirkabel).

#### Keamanan area kerja

- Jaga area kerja bersih dan terang.** Daerah berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan mengoperasikan alat-alat listrik di atmosfer yang bisa meledak, seperti dengan adanya cairan yang mudah terbakar, gas atau debu.** Alat-alat listrik membuat percikan api yang dapat membakar debu asap.
- Jauhkan anak-anak dan para pengamat menjauh sementara operasi alat kekuasaan.** Gangguan dapat menyebabkan anda kehilangan kontrol.

#### Keamanan listrik

- Daya colokan alat harus sesuai outlet. Jangan memodifikasi steker dengan cara apapun.** Jangan menggunakan adaptori dengan colokan alat-alat listrik di lantai (tanah.. Busi dimodifikasi dan outlet yang sesuai akan mengurangi risiko kejutan listrik).
- Hindari kontak tubuh dengan permukaan di lantai atau tanah seperti pipa, radiator, rentang dan lemari es.** Ada peningkatan risiko sengatan listrik jika tubuh anda di lantai atau tanah.
- Jangan mengekspos power tool untuk hujan atau kondisi basah.** Air yang masuk power tool akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabelnya. Jangan menggunakan kabel untuk membawa, menarik atau mencabut power tool.** Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi tajam atau bagian yang bergerak. Kabel rusak atau terbelit meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Ketika mengoperasikan power tool di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang cocok untuk penggunaan outdoor.** Penggunaan kabel yang cocok untuk penggunaan outdoor mengurangi risiko sengatan listrik.

- f. **Jika operasi alat listrik di lokasi yang lembab tidak dapat dihindari**, gunakan perangkat yang dilindungi arus sisa (RCD) pasokan. Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.

### Keselamatan pribadi

- a. **Tetap waspada, perhatikan apa yang anda lakukan dan menggunakan akal sehat saat mengoperasikan alat kekuasaan.** Jangan gunakan alat kekuasaan saat anda lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol atau obat. Sesaat kurangnya perhatian saat mengoperasikan alat-alat listrik dapat menyebabkan cedera pribadi yang serius.
- b. **Gunakan peralatan perlindungan pribadi.** Selalu memakai pelindung mata. Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti selip, topi keras, atau perlindungan pendengaran digunakan untuk kondisi yang tepat akan mengurangi cedera pribadi.
- c. **Mencegah mulai tidak disengaja: Pastikan bahwa saklar dalam posisi off-sebelum terhubung ke sumber listrik dan / atau kemasan baterai, mengambil atau membawa alat.** Membawa alat-alat listrik dengan jari anda pada switch atau mencolokkan alat-alat listrik yang memiliki aktifkan mengundang kecelakaan.
- d. **Lepaskan semua kunci yang dipasang atau kunci sebelum menyalakan daya pada alat.** Sebuah kunci inggris atau tombol kiri menempel ke bagian berputar dari alat listrik dapat menyebabkan cedera pribadi.
- e. **Jangan melampaui batas. Jauhkan pijakan yang tepat dan keseimbangan setiap saat.** Hal ini memungkinkan kontrol yang lebih baik dari power tool dalam situasi tak terduga.
- f. **Berpakaian secara layak. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan.** Menjaga rambut Anda, pakaian dan sarung tangan menjauh dari bagian yang bergerak. Pakaian longgar, perhiasan atau rambut panjang dapat ditangkap di bagian yang bergerak.
- g. **Jika disediakan perangkat untuk sambungan dari ekstraksi debu dan fasilitas pengumpulan, pastikan ini adalah terhubung dan benar digunakan.** Penggunaan perangkat ini dapat mengurangi bahaya debu terkait.
- h. **Jangan biarkan kebiasaan yang didapat dari penggunaan alat yang sering membuat Anda menjadi terlena dan mengabaikan prinsip-prinsip keselamatan alat.** Tindakan ceroboh dapat menyebabkan cedera parah dalam sepersekian detik.

### Penggunaan dan perawatan alat listrik

- a. **Jangan memaksa alat listrik.** Gunakan alat listrik yang benar untuk aplikasi anda. Alat listrik yang benar akan melakukan pekerjaan lebih baik dan lebih aman pada tingkat yang dirancang.
- b. **Jangan gunakan alat listrik jika saklar tidak menyalakannya dan mematikannya.** Setiap alat listrik yang tidak dapat dikontrol dengan saklar berbahaya dan harus diperbaiki.
- c. **Lepaskan steker dari sumber listrik dan / atau baterai sebelum membuat penyesuaian, mengubah aksesoris, atau menyimpan alat-alat listrik.** Keamanan seperti langkah-langkah pencegahan mengurangi risiko kecelakaan menyalakan perkakas listrik.
- d. **Simpan alat-alat listrik yang tidak sedang digunakan jauh dari jangkauan anak-anak dan tidak mengizinkan orang yang tidak terbiasa dengan alat listrik atau dengan instruksi ini untuk mengoperasikan alat listrik.** Alat-alat listrik berbahaya di tangan pengguna yang tidak terlatih.
- e. **Menjaga alat-alat listrik. Periksa salah jajaran atau pengikatan bagian yang bergerak, kerusakan suku cadang dan kondisi lainnya yang dapat mempengaruhi jalannya perkakas listrik itu.** Jika rusak, memiliki alat diperbaiki sebelum digunakan. Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik yang tidak terawat.
- f. **Jauhkan alat pemotong yang tajam dan bersih.** Alat pemotong terjaga dengan tepi yang tajam cenderung tidak mengikat dan lebih mudah untuk mengontrol.
- g. **Gunakan alat listrik, aksesoris dan alat bit dll, sesuai dengan petunjuk ini dan dengan cara yang dimaksudkan untuk jenis tertentu dari alat listrik, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilakukan.** Penggunaan

perkakas listrik untuk operasi yang berbeda dengan yang dimaksudkan akan mengakibatkan situasi yang membahayakan.

- h. **Jaga agar pegangan dan permukaan pegangan tetap kering, bersih dan bebas dari minyak dan lemak.** Gagang yang licin dan permukaan genggaman tidak memungkinkan penanganan dan kontrol alat yang aman dalam situasi yang tidak terduga.

### Penggunaan dan perawatan peralatan baterai

- a. **Isi ulang hanya dengan pengisi daya yang ditentukan oleh produsen.** Pengisi daya yang cocok untuk satu jenis baterai dapat menciptakan risiko kebakaran bila digunakan dengan kemasan baterai lainnya.
- b. **Gunakan alat-alat listrik hanya dengan kemasan baterai khusus yang ditunjuk.** Penggunaan setiap kemasan baterai lain mungkin membuat risiko cedera dan api.
- c. **Bila baterai tidak digunakan, jauhkan dari benda logam lain, seperti penjepit kertas, koin, kunci, paku, sekrup atau benda logam kecil yang dapat membuat koneksi dari satu terminal ke yang lain.** Shorting terminal baterai bersama-sama dapat menyebabkan luka bakar atau kebakaran.
- d. **Dalam kondisi yang melecehkan, cair dapat dikeluarkan dari baterai, hindari kontak.** Jika kontak tidak sengaja terjadi, siram dengan air. Jika cairan kontak mata, tambahan minta bantuan medis. Cair dikeluarkan dari baterai dapat menyebabkan iritasi atau luka bakar.
- e. **Jangan gunakan unit baterai atau alat yang rusak atau dimodifikasi.** Baterai yang rusak atau dimodifikasi dapat menimbulkan kinerja yang tidak terduga sehingga mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau risiko cedera.
- f. **Hindarkan baterai atau alat dari api atau suhu yang berlebihan.** Paparan api atau suhu di atas 130 °C dapat menyebabkan ledakan.
- g. **Ikuti semua petunjuk pengisian daya dan jangan mengisi daya unit baterai atau alat di luar kisaran suhu yang ditetapkan dalam petunjuk.** Mengisi daya dengan cara yang salah atau pada suhu di luar kisaran yang ditetapkan dapat merusak baterai dan meningkatkan risiko kebakaran.

### Servis

- a. **Harap carilah ahli yang menggunakan suku cadang asli untuk memperbaiki peralatan listrik anda.** Ini akan memastikan bahwa keselamatan power tool terjaga.
- b. **Jangan pernah menyervis unit baterai yang rusak.** Servis unit baterai hanya boleh dilakukan oleh produsen atau penyedia servis resmi.

## INSTRUKSI KESELAMATAN SPESIFIK MESIN

### Peringatan keselamatan untuk bor dan obeng

#### 1. Petunjuk keselamatan untuk semua operasi

- a. **Kenakan pelindung telinga pada saat mengebor.** Paparan kebisingan dapat menyebabkan gangguan pendengaran.
- b. **Pegang alat listrik pada permukaan genggam berinsulasi saat mengoperasikan di mana aksesoris pemotong atau pengencang dapat menyentuh kabel tersembunyi.** Aksesoris pemotong atau pengencang yang menyentuh kawat "beraliran listrik" dapat terkena bagian logam dari konduksi alat listrik dan operator dapat terkena kejutan listrik.

## 2. Petunjuk keselamatan saat menggunakan mata bor panjang

- a. **Jangan pernah mengoperasikan alat pada kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan maksimum mata bor.** Pada kecepatan yang lebih tinggi, mata bor kemungkinan akan melengkung jika dibiarkan berputar bebas tanpa menyentuh benda yang dibor, sehingga mengakibatkan cedera pribadi.
- b. **Selalu mulai mengebor dengan kecepatan rendah dan dengan ujung mata bor menyentuh benda yang dibor.** Pada kecepatan yang lebih tinggi, mata bor kemungkinan akan melengkung jika dibiarkan berputar bebas tanpa menyentuh benda yang dibor, sehingga mengakibatkan cedera pribadi.
- c. **Beri tekanan yang sejajar dengan mata bor tetapi jangan menekan terlalu kuat.** Mata bor dapat tertekuk yang menyebabkan kerusakan atau tidak terkendali, sehingga mengakibatkan cedera pribadi.

**Gunakan detektor logam yang cocok untuk mencari kabel dan pipa yang tidak terlihat, atau hubungi perusahaan listrik lokal anda untuk meminta bantuan.** Sentuhan dengan kabel listrik dapat menyebabkan kebakaran dan sengatan listrik. Pipa gas yang rusak bisa mengakibatkan ledakan. Menembus garis air menyebabkan kerusakan properti atau dapat menyebabkan sengatan listrik.

**Segera matikan alat bila tersumbat atau macet.** Bersiaplah terhadap reaksi kecepatan putaran yang tinggi dan dapat menyebabkan dorongan balik. Alat ini menjadi tersumbat bila:

- alat digunakan dengan beban berlebihan
- atau alat macet dalam bidang yang dikerjakan.

**Tahan mesin dengan mencengkeram.** Torsi reaksi yang tinggi secara singkat dapat terjadi saat mengemudi masuk dan memutar sekrup.

**Amankan benda kerja.** Sebuah benda kerja dijepit dengan perangkat menjepit atau wakil diselenggarakan lebih aman daripada dengan tangan.

**Jaga tempat kerja anda bersih.** Campuran bahan sangat berbahaya. Debu logam ringan bisa terbakar atau meledak.

**Selalu menunggu sampai mesin telah datang untuk benar-benar berhenti sebelum menempatkan ke bawah.** Alat kerja bisa tersangkut dan menyebabkan hilangnya kontrol atas alat.

**Hindari menghidupkan tanpa sengaja.** Pastikan pemicu dalam posisi off sebelum memasukkan baterai. Mengangkat perkakas listrik dengan jari anda di pelatuk, atau memasukkan baterai ke dalam alat listrik yang nyala dapat menimbulkan kecelakaan.

### Peringatan keamanan untuk pengisian baterai



Hanya untuk pemakaian dalam ruangan

**Jauhkan pengisi daya baterai jauh dari hujan atau kelembaban.** Penetrasi air di pengisi daya baterai meningkatkan risiko sengatan listrik.

**Jangan mengisi baterai lainnya.** Pengisi daya baterai hanya cocok untuk pengisian baterai yang disertakan dengan alat listrik Anda. Jika tidak akan ada bahaya kebakaran dan ledakan. Jaga bersih pengisi daya baterai. Kontaminasi dapat menyebabkan bahaya sengatan listrik.

**Sebelum setiap kali digunakan, periksa pengisi baterai, kabel dan steker.** Jika kerusakan terdeteksi, jangan menggunakan pengisi baterai. Jangan pernah membuka pengisi daya baterai sendiri. Perbaikan dilakukan hanya oleh teknisi ahli. Pengisi baterai rusak, kabel dan steker meningkatkan risiko sengatan listrik.

**Jangan mengoperasikan pengisi baterai pada permukaan mudah terbakar (misalnya, kertas, tekstil, dll) atau sekitarnya.** Pemanasan dari pengisi daya baterai selama proses pengisian dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

## INFORMASI GETARAN DAN KEBISINGAN

### Tingkat getaran dan kebisingan

Tingkat getaran dan kebisingan yang disebutkan dalam manual petunjuk ini telah diukur sesuai dengan uji standar di EN 62841. Ini dapat digunakan untuk membandingkan satu alat dengan yang lain dan sebagai penilaian awal paparan getaran dan kebisingan ketika menggunakan alat untuk penggunaan yang dinyatakan dalam manual ini. Namun, penggunaan alat ini untuk tujuan berbeda, atau dengan aksesoris berbeda atau kurang terawat, dapat secara signifikan menambah tingkat paparan.

Estimasi tingkat paparan getaran dan kebisingan juga harus mempertimbangkan waktu ketika alat dimatikan atau ketika sedang bekerja tetapi tidak digunakan, karena ini dapat secara signifikan mengurangi tingkat paparan selama total periode kerja. Lindungi diri Anda dari efek getaran dan kebisingan dengan menjaga alat ini dan aksesorinya, serta menjaga tangan Anda tetap hangat dan mengatur pekerjaan Anda.

### Risiko lainnya

**Meskipun alat listrik ini digunakan sesuai peruntukannya, semua faktor risiko lainnya tidak mungkin dapat dihilangkan. Bahaya berikut ini mungkin ditimbulkan oleh konstruksi dan desain alat listrik:**



Kerusakan paru-paru jika tidak mengenakan masker debu yang baik.



Gangguan pendengaran jika tidak mengenakan pelindung pendengaran yang baik.



Gangguan kesehatan akibat getaran jika alat listrik digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama atau tidak ditangani dan dirawat dengan baik.



**PERINGATAN!** Alat listrik ini menghasilkan medan elektromagnetik selama beroperasi. Dalam beberapa keadaan, medan ini dapat mengganggu implan medis aktif atau pun pasif. Untuk mengurangi risiko cedera serius atau fatal, kami menyarankan kepada mereka yang menggunakan implan medis untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter mereka dan pihak produsen implan medis sebelum mengoperasikan mesin ini.

## **PEMASANGAN**

Sebelum bekerja pada mesin (misalnya pemeliharaan, alat perubahan, dll.) serta selama transportasi dan penyimpanan, atur saklar arah rotasi ke posisi tengah. Aktuasi pemicu yang tidak disengaja dapat menyebabkan cedera.

### **Mengisi daya obeng/bor**

Pertama, baca petunjuk keselamatan, kemudian ikuti petunjuk pengisian daya.

Sambungkan ujung kabel USB-C ke port USB-C pada unit baterai (Gbr. 2) (A). Sambungkan ujung kabel USB lainnya ke pengisi daya USB atau stopkontak USB yang dapat memberikan daya yang cukup untuk mengisi daya obeng/bor. Saat unit baterai dihubungkan ke catu daya, dioda di bagian belakang unit baterai akan menyala untuk menunjukkan status pengisian daya:

- Lampu berdenyut - pengisian sedang berlangsung
- Cahaya stabil selama dua menit/tidak menyala - pengisian daya selesai

Pastikan tidak ada simpul dan lengkungan tajam pada kabel. Setelah unit baterai terisi penuh dan unit baterai tetap tersambung ke catu daya, dioda akan tetap menyala selama dua menit dan kemudian mati. Setelah pengisian daya selesai, cabut kabel pengisi daya lalu geser unit baterai ke dudukan obeng/bor. Obeng/bor sekarang siap untuk digunakan. Saat obeng/bor tidak digunakan, lepaskan baterai dari obeng/bor dan simpan di tempat yang sesuai. Dalam kondisi pemakaian normal, obeng dapat diisi ulang beberapa ratus kali.

**PERHATIAN!** Proses pengisian ulang menghasilkan panas pada baterai. Tidak dianjurkan untuk mengisi ulang baterai di suhu di bawah titik beku. Baterai secara bertahap akan berkurang dengan sendirinya selama periode waktu tertentu, meski alat ini tidak digunakan.

### **Memeriksa status daya pada unit baterai**

Anda dapat memeriksa status daya unit baterai dengan menekan sebentar tombol yang terletak di bagian belakang unit baterai. Dioda akan menyala untuk menunjukkan status daya yang tersisa:

- 3 dioda menyala - daya penuh
- 2 dioda menyala - daya sedang
- 1 dioda menyala - daya rendah

Tak lama kemudian, dioda akan mati.

**Catatan:** Baterai yang disertakan dengan obeng/bor telah terisi untuk keperluan pengujian dan harus diisi penuh sebelum digunakan untuk pertama kali.

Obeng/bor TRIXIG dan unit baterai TRIXIG telah dirancang untuk digunakan bersama.

**JANGAN PERNAH** menggunakan unit baterai ini untuk menyalakan peralatan nirkabel dari produsen lain.

Baterai lithium-ion terlindungi dari pelepasan "Electronic Cell Protection (ECP)" yang mendalam. Jika baterai kosong, mesin dipadamkan oleh sirkuit pelindung: Alat yang dimasukkan tidak lagi berputar.



**PERINGATAN** Jangan terus tekan tombol On/Off setelah mesin telah otomatis dimatikan. Baterai dapat rusak.



**PERINGATAN!** Isi ulang baterai pada permukaan yang tidak mudah terbakar. Jangan mengisi ulang baterai selama lebih dari delapan jam.

## **ARAHAH PENGGUNAAN**

### **Menggunakan alat**

**Catatan:** Percikan dapat terlihat melalui celah di badan mesin selama digunakan. Percikan adalah reaksi normal dari mesin ketika digunakan dan dihasilkan oleh komponen di dalam mesin yang bergerak. Fungsi dari alat listrik tidak terpengaruh oleh hal ini. Namun kami menyarankan untuk tidak menggunakan alat listrik dekat cairan yang mudah terbakar, gas atau debu, yang dapat memicu percikan.

### **Bindu tanpa kunci**

Bor Anda memiliki bindu tanpa kunci sehingga Anda dapat mengencangkan atau melepaskan obeng/bor. Pegang selongsong depan dan tekan kontrol kecepatan/pemicu untuk membuka/menutup bindu.

### **Memasang mata bor dan mengebor**

Sebelum bekerja pada mesin (misalnya pemeliharaan, alat perubahan, dll.) serta selama transportasi dan penyimpanan, atur saklar arah rotasi ke posisi tengah. Aktuasi pemicu yang tidak disengaja dapat menyebabkan cedera.

Putar selongsong depan untuk menyetel bindu hingga bukannya sedikit lebih besar dari poros obeng/mata bor yang ingin Anda gunakan. Masukkan mata bor ke dalam bindu.

Kencangan bindu obeng/bor seperti dijelaskan di atas (bindu tanpa kunci).

### **Mengatur kecepatan poros**

Kecepatan poros dapat diatur baik dari nol hingga maksimum dengan mengubah tekanan pada pemicu. Hal ini memungkinkan Anda untuk memilih kecepatan optimal untuk tugas yang anda kerjakan.

### **Membalik arah rotasi**

Anda dapat membalikkan arah rotasi menggunakan tombol arah putaran (4).

Untuk mengunci pelatuk, mengatur pemilih ke posisi pertengahan antara pilihan kanan dan kiri.

### **Mengatur saat pengetatan**

Putar pengatur torsi (2) ke posisi yang diinginkan. Pengaturan 1-19 digunakan untuk mengencangkan / mengendurkan sekrup (semakin tinggi nilai, semakin besar saat pengetatan). Pilih simbol bor sebelum menggunakan alat untuk pengeboran.

### **Tempat mata bor bermagnet**

Anda dapat menempatkan mata bor dan bor yang sedang Anda gunakan pada dudukan mata bor magnetis (8.) di atas obeng/bor agar selalu dekat dengan Anda sewaktu Anda bekerja.

### **Lampu kerja LED**

Obeng memiliki lampu kerja LED bawaan untuk menerangi area kerja. Lampu kerja LED menyala setiap kali saklar pemicu ditekan dan kemudian mati saat saklar pemicu dilepaskan.

## **PERINGATAN: RESIKO TERPERANGKAP**

Jangan pegang lengan depan cekaman dengan satu tangan pada waktu yang sama seperti anda membuka atau menutup rahang cekaman dengan bantuan motor bor obeng /'s.

### **Pemeliharaan dan pembersihan**

Simpan obeng/bor dalam keadaan bersih dan kering sepanjang waktu untuk memastikan penggunaan yang tepat dan aman. Seka puing-puing dengan menggunakan kain lembut yang dibasahi dengan air. Jangan menggunakan bahan pembersih atau pelarut.

Agar dapat berfungsi dengan aman dan benar, selalu jaga kebersihan mesin dan slot ventilasi.

Produk ini ditujukan untuk penggunaan rumah tangga, bukan untuk komersial atau pengukuran memenuhi syarat yang dilakukan oleh para profesional.

**Simpan manual ini untuk digunakan di masa mendatang.**

**Produsen: IKEA of Sweden AB**

**Alamat: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDIA**



Baterai dan baterai isi ulang bukanlah limbah rumah tangga! Sebagai konsumen, hukum mewajibkan Anda untuk membuang baterai dan baterai isi ulang, apakah baterai tersebut mengandung zat berbahaya\* atau pun tidak, di lokasi penampungannya di kota/lingkungan Anda atau melalui lembaga komersial yang menawarkan pembuangan baterai sehingga dapat dibuang dengan cara yang ramah lingkungan.

\* ditandai dengan: Cd = kadmium, Hg = merkuri, Pb = timbal



Simbol roda bin bertanda silang menunjukkan bahwa item tersebut harus dibuang secara terpisah dari limbah rumah tangga. Item ini harus diserahkan untuk daur ulang sesuai dengan peraturan lingkungan setempat untuk pembuangan limbah. Dengan memisahkan item yang ditandai dari limbah rumah tangga, anda akan membantu mengurangi volume sampah yang dikirim ke insinerator atau isi tanah dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi toko IKEA.

# Bahasa Malaysia

## Pemutar skru/gerudi Li-ion 12V TRIXIG

### SPESIFIKASI TEKNIKAL - PEMUTAR SKRU/GERUDI

Model: TRIXIG

Jenis: P2202

Voltan nominal: 10.8 Vdc

Voltan terkadar: 12.0 Vdc

Jenis bateri: 1.5 Ah Lithium-Ion

Masa pengecasan:

Jika anda menggunakan arus cas 5.0V 1.0A - masa pengecasan < 360 min.

Jika anda menggunakan arus cas 5.0V 2.0A - masa pengecasan < 210 min.

Jika anda menggunakan arus cas 5.0V 3.0A - masa pengecasan < 150 min.

Kapasiti bindu: 0.8 - 10 mm (1/32"-3/8")

Tork mudah laras: 19 + pengerudian

Tork tangan maks: lebih kurang 16 Nm

Rpm maks. (kelajuan tanpa bebanan): 900/min

Pemegang untuk bit pemutar skru: 6.35 mm (1/4")

Berat: lebih kurang 1.035 kg (2.282 lb) gerudi+pek bateri sahaja)

### Getaran (mengikut EN 62841-1, EN 62841-2-1):

Mengerudi ke dalam logam

$a_{hD} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K=1.5 \text{ m/s}^2$ ,

### Hingar (mengikut EN 62841-1):

Aras tekanan hingar  $L_{pA} = 72 \text{ dB}$  (A),  $K_{pA} = 5 \text{ dB}$  (A)

Aras kuasa hingar  $L_{wA} = 80 \text{ dB}$  (A),  $K_{wA} = 5 \text{ dB}$  (A)

### DATA TEKNIKAL - PEK BATERI

Jenis: ICBL 10.8-16-USBC-P1

Kapasiti: 1.5 Ah Lithium-Ion, 16.2Wh

Input: 5.0 Vdc / 1.0-3.0A (USB-C)

Sel bateri Li-Ion boleh cas semula di dalam

(Tiga sel INR19/66 Li-ion bersambung pada kelompok dalam siri)

Untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.

### Kadar pengecasan yang disyorkan:

5.0 Vdc / 1.0-3.0 A (jenis C), suhu pengecasan 0-50°C

### Ciri-ciri produk

Bilangan ciri-ciri produk yang yang tertera merujuk kepada ilustrasi pemutar skru/gerudi pada laman grafik.

- Bindu tanpa kunci
- Pengawal tork
- Kawalan kelajuan/pencetus pelbagai yang amat kecil
- Suis arah putaran
- Lampu kerja LED
- Pek bateri
- Sarung hadapan
- Pemegang bit magnetik

### PERHATIAN!

Kabel USB-C dan pengecas USB tidak disertakan. Terdapat kompartmen storan tambahan di dalam kotak pemutar skru/gerudi untuk pek bateri TRIXIG tambahan.

## PENGUNAAN

Pemutar skru/gerudi tanpa kord ini boleh digunakan untuk menggerudi pada kayu, plastik dan bahan besi lembut, dan juga untuk mengetatkan/melonggarkan skru. Penggunaan alat ini tidak sesuai dengan mereka (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya, atau kurang pengetahuan dan pengalaman, melainkan telah diawasi atau diberi arahan penggunaan alat ini oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap keselamatan pengguna. Kanak-kanak harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain dengan alat ini.

## ARAHAH KESELAMATAN AM

### Arahan keselamatan am



**AMARAN!** Baca semua amaran keselamatan, arahan, ilustrasi dan spesifikasi yang disediakan dengan alat kuasa ini. Kegagalan mematuhi semua arahan yang disenaraikan di bawah boleh mengakibatkan renjatan elektrik, kebakaran dan/atau kecederaan serius.

### Simpan semua amaran dan arahan untuk rujukan masa hadapan

Istilah "alat kuasa" dalam amaran merujuk kepada alat kuasa (berwayar) kendalian kuasa utama anda atau alat kuasa kendalian bateri (tanpa wayar).

#### Keselamatan ruang kerja

- Pastikan ruang kerja bersih dan terang.** Ruang yang bersepadah dan gelap akan mengundang kemalangan.
- Jangan menggunakan alat di kawasan yang cenderung kepada letusan, contohnya berdekatan dengan cecair, gas dan habuk yang mudah terbakar.** Alat ini menghasilkan percikan api yang boleh menyebabkan kebakaran.
- Jauhkan daripada kanak-kanak dan orang ramai ketika menggunakan alat.** Kelalaian boleh menyebabkan anda hilang kawalan.

#### Keselamatan elektrik

- Plak 'power tool' mestilah bersesuaian dengan soket.** Jangan mengubahsuai plak dengan apa cara sekalipun. Jangan gunakan plak penyesuai yang terbumikan 'power tool' anda. Plak yang tidak diubahsuai akan mengurangkan risiko kejutan elektrik.
- Elakkan bersentuhan dengan permukaan terbumi seperti paip, radiator dan peti sejuk.** Risiko kejutan elektrik meningkat jika tubuh anda terbumi.
- Jangan dedahkan 'power tool' kepada hujan atau keadaan basah.** 'Power tool' yang terkena air akan meningkatkan risiko kejutan elektrik.
- Jangan salah gunakan kord. Jangan sese kali gunakan ia untuk mengangkat, menarik atau mencabut 'power tool' daripada soket.** Jauhkan kord daripada kepanasan, minyak, benda tajam atau bahagian yang bergerak. Kord yang rosak atau terbelit meningkatkan risiko kejutan elektrik.
- Apabila menggunakan 'power tool' di luar bangunan, gunakan kord sambungan yang bersesuaian dengan kegunaan luar.** Menggunakan kord yang bersesuaian mengurangkan risiko kejutan elektrik.
- Jika menggunakan alat ini di lokasi yang lembap tidak dapat dielakkan,** gunakan bekalan alat arus sisa (RCD) yang dilindungi. Penggunaan RCD mengurangkan risiko kejutan elektrik.

#### Keselamatan peribadi

- Sentiasa berjaga-jaga, perhatikan apa yang anda lakukan dan gunakan akal ketika menggunakan alat ini.** Jangan gunakannya ketika anda penat atau di bawah pengaruh dadah, alkohol atau ubat. Kelalaian seketika boleh menyebabkan kecederaan serius tatkala menggunakan alat ini.

- b. **Gunakan pelindung keselamatan. Sentiasa memakai pelindung mata.** Topeng habuk, kasut keselamatan tidak mudah tergelincir, topi keras, atau pelindung pendengaran akan mengurangkan risiko kecederaan serius.
- c. **Elakkan permulaan kemalangan.** Pastikan suis dimatikan ketika memasukkan plak ke dalam punca kuasa. Membawa alat ini dengan jari anda pada suis kuasa boleh mengundang kemalangan.
- d. **Alikan kunci pelaras atau perengkuh sebelum menghidupkan alat ini.** Apa-apa yang bersambungan dengan bahagian bergerak alat ini boleh mengakibatkan kecederaan.
- e. **Jangan melampaui jangkauan anda.** Pastikan anda sentiasa seimbang setiap masa. Ini boleh membantu anda berada dalam kawalan ketika kejadian tidak diingini berlaku.
- f. **Berpakaian dengan sepatutnya.** Jangan memakai barang kemas atau baju yang besar. Jauhkan rambut, pakaian dan sarung tangan daripada bahagian yang bergerak. Pakaian yang besar, barang kemas atau rambut panjang boleh tersangkut pada bahagian bergerak.
- g. **Jika alat ini disertakan dengan sambungan pengekstrak habuk dan kemudahan pengumpulan,** pastikan alat ini disambungkan dan digunakan dengan betul. Penggunaan alat-alat ini boleh mengurangkan bahaya berkaitan habuk.
- h. **Jangan biarkan kebiasaan yang diperoleh daripada alatan yang acap kali digunakan membuat anda berpuas hati dan tidak memperdulikan prinsip keselamatan.** Tindakan yang cui boleh menyebabkan kecederaan teruk dalam hanya beberapa saat.

#### **Penggunaan dan penjagaan 'power tool'**

- a. **Jangan memaksa penggunaan alat ini.** Gunakan alat yang sepatutnya untuk kegunaan yang betul. Alat yang betul akan membuat kerja dengan baik dan selamat, sesuai dengan kegunaannya.
- b. **Jangan gunakan alat ini jika suis tidak berfungsi.** Alat yang tidak boleh dikawal dengan suisnya adalah berbahaya dan mesti dibaiki.
- c. **Cabut palam daripada punca kuasa dan/atau pek bateri sebelum melakukan penyenggaraan,** penukaran aksesori, atau penyimpanan alat ini. Langkah keselamatan ini dapat mengurangkan risiko menghidupkan alat ini tanpa sengaja.
- d. **Simpan alat yang tidak digunakan jauh daripada kanak-kanak dan jangan benarkan individu tanpa pengalaman menggunakan alat ini.** Alat ini adalah berbahaya pada pengguna yang tidak terlatih.
- e. **Selenggara alat kuasa.** Periksa salah jajaran atau pengikatan bagi bahagian yang bergerak, bahagian yang patah dan sebarang keadaan lain yang mungkin mengesankan pengendalian alat kuasa ini. Jika rosak, baiki alat kuasa ini sebelum digunakan. Kebanyakan kemalangan adalah disebabkan daripada alat kuasa yang tidak diselenggara dengan baik.
- f. **Pastikan alat pemotong tajam dan bersih.** Alat pemotong yang diselenggara dengan betul dengan mata pemotong yang tajam mengurangkan risiko mengikat dan mudah untuk dikawal.
- g. **Gunakan alat kuasa, aksesori dan alat bit dsb, mengikut arahan ini dan melalui cara yang dikhususkan untuk jenis alat kuasa yang tertentu, mengambil kira keadaan tugas dan tugas yang akan dilanjkan.** Penggunaan alat kuasa ini bagi tujuan operasi yang berbeza-beza daripada yang dikhususkan boleh menimbulkan risiko yang berbahaya.
- h. **Pemegang dan permukaan genggam hendaklah kekal kering, bersih dan bebas daripada minyak dan gris.** Pemegang dan permukaan genggam yang licin tidak memberi ruang untuk pengendalian alatan yang selamat dan terkawal dalam keadaan yang tidak diingini.

#### **Cara menggunakan dan menjaga alat bateri**

- a. **Caskan bateri hanya dengan pengecas yang ditentukan oleh pengilang.** Pengecas untuk bateri tertentu akan mewujudkan risiko kebakaran apabila digunakan dengan bateri lain yang tidak sesuai.
- b. **Gunakan alat dengan bateri yang dikhaskan secara spesifik.** Penggunaan bateri yang lain mungkin mengakibatkan risiko kecederaan dan kebakaran.
- c. **Apabila bateri tidak digunakan, jauhkannya daripada objek besi seperti klip kertas, syiling, kunci, paku, skru atau lain-lain objek besi kecil yang boleh menyambungkan satu terminal ke terminal yang lain.** Menyambungkan terminal bateri boleh menyebabkan melecur atau kebakaran.

- d. **Penggunaan yang tidak betul mengakibatkan cecair keluar daripada bateri; elakkan sentuhan.** Jika tersentuh, bilas dengan air. Jika terkena mata, dapatkan bantuan perubatan. Cecair daripada bateri boleh menyebabkan kerengsaan atau kelecuhan.
- e. **Jangan gunakan pek bateri atau alat yang rosak atau diubah suai.** Bateri yang rosak atau diubah suai mungkin menunjukkan ragam yang tidak dapat diramalkan, mengakibatkan kebakaran, letupan atau risiko kecederaan.
- f. **Jangan dedahkan pek bateri atau alat kepada api atau suhu yang berlebihan.** Pendedahan kepada api atau suhu melebihi 130 °C boleh menyebabkan letupan.
- g. **Ikti semua arahan pengecasan dan jangan cas pek bateri atau alat di luar julat suhu yang ditentukan dalam arahan.** Pengecasan yang tidak betul atau pada suhu di luar julat yang ditentukan boleh merosakkan bateri dan meningkatkan risiko kebakaran.

#### Servis

- a. **Pastikan alat anda dibaiki oleh pakar yang diiktiraf yang menggunakan hanya alat ganti yang sama.** Ini akan mengekalkan keselamatan alat ini.
- b. **Jangan sesekali servis pek bateri yang rosak.** Servis pek bateri hanya boleh dilakukan oleh pengilang atau penyedia perkhidmatan yang dibenarkan.

### ARAHAN KESELAMATAN SPESIFIK MESIN

#### Amaran keselamatan untuk gerudi dan pemutar skru

##### 1. Arahah keselamatan untuk semua operasi

- a. **Pakai pelindung telinga semasa penggerudian hentaman.** Pendedahan kepada hingar boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.
- b. **Pegang alat kuasa pada permukaan cengkam berpenebat apabila melakukan operasi yang aksesori pemotong atau pengikat boleh tersentuh pendawaian tersembunyi.** Aksesori pemotong atau pengikat yang bersentuhan dengan wayar "hidup" boleh membuatkan bahagian logam yang terdedah pada alat kuasa menjadi konduktif dan boleh menyebabkan pengendali terkena renjatan elektrik.

##### 2. Arahah keselamatan apabila menggunakan mata gerudi panjang

- a. **Jangan sesekali melakukan operasi pada kelajuan yang lebih tinggi daripada kadar kelajuan maksimum mata gerudi.** Pada kelajuan yang lebih tinggi, mata gerudi mungkin menjadi bengkok jika dibiarkan berputar dengan bebas tanpa menyentuh bahan kerja, mengakibatkan kecederaan diri.
- b. **Sentiasa mulakan penggerudian pada kelajuan rendah dan dengan hujung mata gerudi bersentuhan dengan bahan kerja.** Pada kelajuan yang lebih tinggi, mata gerudi mungkin menjadi bengkok jika dibiarkan berputar dengan bebas tanpa menyentuh bahan kerja, mengakibatkan kecederaan diri.
- c. **Kenakan tekanan hanya sejajar dengan mata gerudi dan jangan kenakan tekanan yang berlebihan.** Mata gerudi boleh menjadi bengkok menyebabkan pecah atau hilang kawalan, mengakibatkan kecederaan diri.

**Guna pengesan yang sesuai untuk menentukan jika saluran utiliti tersembunyi dalam kawasan kerja atau hubungi syarikat utiliti tempatan anda untuk bantuan.** Tersentuh saluran elektrik boleh menyebabkan kebakaran dan kejutan elektrik. Menembusi saluran air menyebabkan kerosakan harta benda atau boleh menyebabkan kejutan elektrik.

**Matikan alat kuasa serta-merta apabila alat tersekat atau tersangkut.** Bersedia untuk tork tindak balas yang tinggi yang boleh menyebabkan anjalan. Alat menjadi tersekat apabila:

- alat kuasa tertakluk pada beban lampau
- atau alat tersebut dalam bahan kerja.

**Pegang mesin ini dengan genggaman yang kuat.** Tork bertindak balas tinggi boleh berlaku ketika mengetatkan atau melonggarkan skru.

**Kemaskan bahan kerja.** Bahan kerja yang diapit dengan alat pengapit atau ragum adalah lebih kemas berbanding yang dipegang dengan tangan.

**Pastikan tempat kerja anda bersih.** Campuran bahan adalah merbahaya. Habuk daripada aloi ringan boleh terbakar atau meletup.

**Sentiasa tunggu sehingga alat benar-benar berhenti sebelum meletakkannya.** Sisipan alat boleh tersekat dan menyebabkan alat ini hilang kawalan.

**Elakkan menghidupkan suis tanpa sebab.** Pastikan picu dalam posisi padam ketika memasukkan pek bateri. Membawa alatan ini dengan jari anda pada picu atau memasukkan pek bateri ketika suis hidup meninggikan risiko kemalangan.

#### **Amaran Keselamatan pengecas bateri**

Jauhkan pengecas bateri daripada hujan atau kelembapan. Risiko kejutan elektrik meningkat apabila air masuk ke pengecas bateri.

Jangan mengecas bateri jenis yang lain. Pengecas bateri hanya sesuai untuk mengecas bateri yang disertakan bersama peralatan anda. Jika sebaliknya berlaku, terdapat risiko kebakaran dan letupan.

Pastikan pengecas bateri sentiasa bersih. Pengecas yang tercemar boleh mengakibatkan kejutan elektrik.

#### **Untuk kegunaan dalam bangunan sahaja.**

**Sebelum setiap penggunaan, periksa pengecas bateri, kabel dan palam. Jika terdapat kerosakan, jangan gunakan pengecas bateri itu.** Jangan membuka pengecas bateri sendiri. Pastikan ia dibaiki oleh juruteknik yang berkelayakan. Pengecas bateri, kabel dan palam yang rosak meningkatkan risiko kejutan elektrik.

**Jangan gunakan pengecas bateri pada permukaan atau persekitaran yang mudah terbakar (seperti kertas, tekstil, dsb).** Haba pengecas bateri ketika proses mengecas boleh mendedahkan kepada bahaya terbakar.

#### **MAKLUMAT GETARAN DAN HINGAR**

##### **Tahap getaran dan hingar**

Tahap getaran dan pelepasan hingar yang dinyatakan dalam manual arahan ini telah diukur mengikut ujian standard dalam EN 62841. Maklumat ini boleh digunakan untuk membandingkan satu alat dengan alat yang lain dan sebagai penilaian awal pendedahan kepada getaran dan hingar apabila menggunakan alat bagi aplikasi yang dinyatakan dalam manual ini. Walau bagaimanapun, menggunakan alat untuk aplikasi yang berbeza, atau dengan aksesori yang berbeza atau tidak diselenggara dengan baik, boleh meningkatkan tahap pendedahan dengan ketara.

Anggaran tahap pendedahan kepada getaran dan hingar juga harus mengambil kira masa alat dimatikan atau semasa alat dihidupkan tetapi tidak digunakan, kerana ini boleh mengurangkan tahap pendedahan sepanjang tempoh kerja dengan ketara. Lindungi diri anda daripada kesan getaran dan hingar dengan mengekalkan alat dan aksesori alat, memastikan tangan anda hangat dan mengatur kerja anda.

##### **Risiko lain**

Walaupun alat kuasa digunakan seperti yang ditetapkan, tidak mungkin semua faktor risiko lain dapat dihapuskan. Bahaya berikut mungkin timbul berkaitan dengan pembinaan dan reka bentuk alat kuasa:



Kerosakan kepada paru-paru jika topeng habuk yang berkesan tidak dipakai.



Kerosakan kepada pendengaran jika perlindungan pendengaran yang berkesan tidak dipakai.



Kerosakan kepada kesihatan akibat getaran jika alat kuasa digunakan dalam tempoh yang lebih lama atau tidak dikendalikan dan diselenggara dengan betul.



**AMARAN!** Alat kuasa ini menghasilkan medan elektromagnet semasa operasi. Dalam keadaan tertentu, medan ini mungkin mengganggu implan perubatan aktif atau pasif. Untuk mengurangkan risiko kecederaan serius atau maut, kami mengesyorkan individu yang mempunyai implan perubatan untuk berunding dengan doktor mereka dan pengeluar implan perubatan sebelum mengendalikan mesin ini.

## **PEMASANGAN**

Sebelum sebarang tugas dijalankan pada mesin (seperti penyelenggaraan, menukar peralatan, dsb) dan juga semasa mengangkat dan storan, tetapkan suis arah pusingan kepada posisi tengah. Gerakan picu tanpa sengaja boleh mengakibatkan kecederaan.

### **Mengecas pemutar skru/gerudi anda**

Baca arahan keselamatan dahulu dan kemudian ikuti arahan pemasangan.

Sambungkan hujung kabel USB-C pada port USB-C pada pek bateri (Gambar 2) (A).

Sambungkan hujung kabel USB lain pada pengecas USB atau salur keluar USB yang boleh membekalkan kuasa yang mencukupi untuk mengecas pemutar skru/gerudi. Apabila pek bateri bersambung pada bekalan kuasa, diod pada belakang pek bateri akan menyala untuk menunjukkan status pengecasan:

- Cahaya denyut - pengecasan sedang berjalan
  - Cahaya stabil selama dua minit/tidak ada cahaya - pengecasan selesai
- Pastikan tiada simpulan atau bengkok yang tajam pada kabel. Selepas pek bateri dicas sepenuhnya dan pek bateri kekal bersambung pada bekalan kuasa, diod akan kekal menyala selama dua minit dan kemudian terpadam. Apabila pengecasan selesai, cabut kabel pengecasan dan kemudian luncurkan pek bateri ke dalam pemegang pemutar skru/gerudi. Pemutar sekru/gerudi kini siap digunakan. Apabila pemutar skru/gerudi tidak digunakan, cabut pek bateri daripada pemutar skru/gerudi dan simpannya di tempat yang sesuai. Di bawah keadaan biasa penggunaan pemutar skru, ia boleh dicas sebanyak beberapa ratus kali.

**PERHATIAN!** Proses mengecas menjana haba pada bateri. Tidak disyorkan untuk mengecas semula bateri pada suhu di bawah tahap beku. Bateri akan kehilangan kuasanya dalam tempoh masa tertentu, walaupun gerudi tidak digunakan.

### **Memeriksa status kuasa pada pek bateri**

Anda boleh memeriksa status kuasa pek bateri dengan menolak sedikit butang yang terletak pada belakang pek bateri. Diod akan menyala untuk menunjukkan status kuasa berbaki:

- 3 diod menyala - pengecasan penuh
- 2 diod menyala - pengecasan sederhana
- 1 diod menyala - pengecasan rendah

Tidak lama selepas itu, diod akan terpadam

**Catatan:** Bateri yang dibekalkan dengan pemutar skru/gerudi telah dicas untuk tujuan ujian sahaja dan mesti dicas sepenuhnya sebelum digunakan buat pertama kali.

Pemutar skru/gerudi TRIXIG dan pek bateri TRIXIG telah direka bentuk untuk digunakan bersama-sama.

JANGAN SEKALI-KALI menggunakan pek bateri untuk membekalkan kuasa pada peralatan tanpa wayar daripada pengilang lain.

Bateri litium-ion dilindungi daripada cas yang melampau oleh "Electronic Cell Protection (ECP)". Apabila bateri kosong, mesin akan terpadam melalui litar pelindung: Peralatan yang disisipkan tidak lagi berputar.



**AMARAN** Jangan terus menekan suis On/Off selepas mesin ini terpadam secara automatik. Bateri boleh rosak.



**AMARAN:** Cas semula bateri di atas permukaan tidak mudah terbakar. Jangan cas bateri selama lebih daripada 8 jam.

## ARAHAN PENGGUNAAN

### Menggunakan alat

**Nota:** Percikan api mungkin boleh dilihat menerusi slot di dalam bekas motor ketika dikendalikan. Percikan api ini merupakan tindak balas normal motor apabila digunakan dan berhasil oleh komponen di dalam motor yang bergerak dan terkena antara satu sama lain. Fungsi alat ini tidak dipengaruhi oleh percikan ini. Walaubagaimana pun, kami mengesyorkan alat kuasa ini tidak digunakan berdekatan sebarang cecair, gas atau habuk yang mudah terbakar, yang boleh menyalaikan percikan api ini.

### Bindu tanpa kunci

Gerudi anda mempunyai bindu tanpa kunci jadi anda boleh mengetat atau mengeluarkan bilah gerudi/pemandu dengan mudah. Pegang sarung depan dan tolak pada pengawal kelajuan/ pencetus untuk membuka/minutup bindu.

### Memasang bit dan gerudi

Sebelum sebarang tugas dijalankan pada mesin (seperti penyelenggaraan, menukar peralatan, dsb) dan juga semasa mengangkat dan storan, tetapkan suis arah pusingan kepada posisi tengah. Gerakan picu tanpa sengaja boleh mengakibatkan kecederaan. Putar sarung depan untuk mlaraskan bindu sehingga bukaan sedikit luas berbanding aci pemutar skru/bit gerudi yang anda ingin gunakan. Masukkan pemutar skru/bit gerudi ke dalam bindu. Ketatkan bindu cuk bertentangan pemutar skru/ngerudi seperti yang dihuraikan di atas (Bindu tanpa kunci).

### Mengawal atur kelajuan aci

Kedua-dua kelajuan aci juga boleh dikawal atur daripada sifar kepada maksimum dengan mengubah tekanan yang dikenakan pada pencetus. Ini membolehkan anda memilih kelajuan optimum untuk tugas yang sedang dilakukan.

### Membalikkan arah pusingan

Anda boleh membalikkan arah pusingan dengan menggunakan suis arah pusingan (4). Untuk mengunci picu, setkan pemilih ke posisi tengah antara pilihan kanan dan kiri.

### Melaraskan keketatan

Pusing pengawal tork (2) ke posisi yang diinginkan. Setting 1-19 digunakan untuk mengetat/melonggarkan skru (lebih tinggi nilai, lebih ketat). Pilih simbol gerudi sebelum menggunakan alat untuk menggerudi.

## **Pemegang bit magnetik**

Anda boleh meletakkan mata dan gerudi yang sedang digunakan di atas pemegang mata gerudi magnetik (8.) di atas pemutar skru/gerudi anda bagi memastikan ia sentiasa berhampiran semasa anda bekerja.

## **Lampu kerja LED**

Pemutar skru ada lampu kerja LED terbina dalam untuk menerangi kawasan kerja. Lampu kerja menyala setiap kali suis pencetus dipicit dan kemudian terpadam apabila suis pencetus dilepaskan.

## **AMARAN: RISIKO TERSEPIK**

Jangan memegang bahagian hadapan cekam dengan satu tangan pada masa yang sama ketika anda membuka atau menutup rahang cekam dengan bantuan motor pemutar skru/gerudi.

## **Penyelenggaran dan pembersihan**

Pastikan pemutar skru/gerudi sentiasa dalam keadaan bersih dan kering sepanjang masa bagi memastikan pengendalian yang betul dan selamat. Lap sebarang kekotoran menggunakan kain lembut yang dilembapkan dengan air. Jangan gunakan sebarang agen pembersih atau pelarut.

Sentiasa pastikan mesin dan slot pengudaraan dalam keadaan bersih agar berfungsi dengan selamat dan betul.

Produk ini khusus untuk penggunaan domestik di rumah, bukan untuk komersial atau ukuran layak yang dilakukan oleh profesional.

**Simpan manual ini bagi kegunaan masa hadapan.**

**Pengeluar: IKEA Sweden AB**

**Alamat: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



Bateri dan bateri boleh dicas semula bukan sisa isi rumah! Sebagai pengguna, anda dikehendaki oleh undang-undang untuk melupuskan semua bateri dan akumulator, sama ada bateri dan akumulator tersebut mengandungi bahan berbahaya\* atau tidak, di tempat pengumpulan dalam kawasan perbandaran/kejiranan anda atau melalui entiti komersial yang menawarkan pelupusan bateri supaya barang-barang ini boleh dilupuskan dengan cara yang mesra alam.

\*ditandakan dengan: Cd = kadmium, Hg = merkuri, Pb = plumbum



Simbol roda berpangkah menunjukkan item ini harus dilupuskan berasingan daripada bahan buangan isi rumah. Item ini sepatutnya diserahkan untuk dikitar semula selaras dengan peraturan alam sekitar tempatan untuk pelupusan sampah. Dengan mengasingkan item bertanda daripada bahan buangan isi rumah, anda akan membantu mengurangkan jumlah bunagan yang dihantar ke tapak pelupusan dan meminimumkan kesan negatif yang berpotensi ke atas kesihatan manusia serta alam sekitar. Untuk maklumat lanjut, hubungi gedung IKEA anda.

لا يتم تضمين كابل-C USB وشاحن USB. توجد حجيرة تخزين إضافية داخل صندوق المفك / الدريل لبطارية TRIXIG إضافية.

### أوجه الاستخدام

يمكن استخدام هذا المفك/الدريل اللاسلكي للثقب في الخشب، البلاستيك والمواد المعدنية الطيرية، ولربط/حل المسامير.

هذا الجهاز ليس مصمم للاستخدام بواسطة أشخاص (شاملًا الأطفال) لديهم قصور طبيعي أو عقلي، أو ليس لديهم معرفة أو خبرة باستخدام الجهاز، ما لم يتم الإشراف عليهم وإعطاءهم تعليمات الاستخدام بواسطة شخص مسؤول عن سلامتهم. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يستخدمون الجهاز لهو.

### تعليمات عامة للسلامة

### تعليمات عامة للسلامة



**تحذير! أقرأ جميع تحذيرات السلامة والتعليمات والرسوم التوضيحية والمواصفات المرفقة مع الأداة الكهربائية. قد يؤدي عدم اتباع جميع التعليمات المذكورة أدناه إلى حدوث صدمة كهربائية وأو نشوب حريق وأو التعرض لإصابة خطيرة.**

### احفظ جميع التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً

يشير مصطلح "الأداة الكهربائية" في التحذيرات إلى الأداة الكهربائية (السلكية) التي يتم تشغيلها بواسطة التيار الكهربائي أو الأداة الكهربائية (اللاسلكية) التي يتم تشغيلها بالبطاريات.

### منطقة العمل

أ. أجعل منطقة العمل نظيفة ومضاءة جيداً. الأماكن المظلمة والتي بها فوضى مسببة للحوادث.

ب. لا تشعل الأداة في أجواء قابلة لإنفجار، مثلًا في وجود سوانس، غازات أو أتربة قابلة للاشتعال. الأداة تحدث شرارة قد تشعل غبار الأدخنة.

ج. أبقِ الأطفال والحاضرين بعيداً أثناء تشغيل الأداة. عدم التركيز قد يؤدي إلى فقدان السيطرة.

### السلامة في الكهرباء

أ. يجب على مقابس الأداة أن تتوافق مع مأخذ الكهرباء. لا تقم أبداً بتعديل المقبس بأي شكل من الأشكال. لا تستخدم أي مقابس تحويل ذات خط أرضي مع الأداة. المقابس الغير معدلة والمأخذ المتواقة سوف تقلل من مخاطر حدوث صدمة كهربائية.

ب. تجنب ملامسة الأسطح ذات خط أرضي مثل الأنابيب، المشعاع، الأفران والثلاجات. هناك خطير متزايد لحدوث صدمة كهربائية إذا حدث توصيل أرضي لجسمك.

ج. لا تعرّض الأداة للملطأ أو لأجزاء رطبة. دخول الماء للأداة سوف يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

د. لا تنسِء استخدام السلك. لا تستخدم السلك أبداً لحمل، وسحب أو لنزع الأداة من المأخذ. احفظ السلك بعيداً عن الحرارة، الزيت، الحواف الحادة أو الأشياء المتحركة. الأسلاك التالفة أو المتشابكة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

هـ. عند تشغيل الأداة في أماكن خارجية، استخدم سلك تمديد مناسب للاستخدام الخارجي. استخدام سلك مناسب للاستخدام الخارجي يقلل من خطر حدوث صدمة كهربائية.

وـ. إذا كان من غير الممكن تجنب تشغيل الأداة في أماكن رطبة، استخدم مصدر طاقة محمي بواسطة جهاز للتيار المختلف. إن استخدام مثل هذا الجهاز يقلل مخاطر الصدمة الكهربائية.

### السلامة الشخصية

أ. كن يقظاً، وراقب ما تقوم به واستخدم الحكمة عند تشغيل الأداة. لا تستخدم الأداة عندما تكون متعباً أو واقعاً تحت تأثير الأدوية المنومة. إذا غفلت لحظة أثناء تشغيل الأداة فقد يؤدي ذلك إلى إصابة بدنية بالغة.

**الموصفات الفنية - المفك/الدريل**

**الموديل:** TRIXIG

**النوع:** P2202

**الجهد الطبيعي:** 10.8 فولت تيار مستمر

**الجهد المقدر:** 12 فولت تيار مستمر

**نوعية البطارية:** Ah Lithium-Ion 1.5

**مدة الشحن:**

في حالة استخدام تيار شحن 5.0 فولط 1.0 أمبير - مدة الشحن < 360 دقيقة

في حالة استخدام تيار شحن 5.0 فولط 2.0 أمبير - مدة الشحن > 210 دقيقة

في حالة استخدام تيار شحن 5.0 فولط 3.0 أمبير - مدة الشحن > 150 دقيقة

**سعة قابض اللقم:** 0.8 - 10 ملم (3/8 - 1/32 بوصة)

عزم دواران قابل للتعديل: 19 - نسب

عزم الدواجن الصلب الأقصى: تقريبا. 16 نانومتر

**أقصى دورة/دقيقة (سرعة اللاحم)**: 900 دورة / الدقيقة.

**حامل لقم المفك:** 6.35 ملم (1/4 بوصة)

**الوزن تقريبا.** 1.035 كجم (2.282 رطل) (الدريل + البطارية فقط)

## .EN 62841-1, EN 62841-2-1 للموصفات 1-2-1

**الثقب في المعدن**

$$a_{h,D} = 1.1 \text{ m}/\xi^2, K = 1.5 \text{ m}/\text{s}^2$$

## .EN 62841-1 للموصفات 1-2-1

**الصوابع (وفقا للموصفات 1-2-1)**

مستوى ضغط الصوابع = 72  $L_{pA}$  ديسيل (A).

، كيلو باسكال 5 ديسيل (A).

مستوى طاقة الصوابع = 80  $L_{wA}$  ديسيل (A).

، كيلو واط = 5 ديسيل (A).

## الموصفات الفنية - البطارية

**النوع:** ICBL 10.8-16-USBC-P1

**السعة:** 1.5 أمبير ليثيوم أيون، 16,2 واط

توجد بالداخل خلية بطارية ليثيوم أيون أيون 66 / 66 INR19 متصلة بمجموعة في سلسلة

للستخدام في أماكن داخلية فقط.

**معدات الشحن الموصى بها:**

5.0 فولت تيار مستمر

0.1-3.0 أمبير (نوع C)، درجة حرارة الشحن 0-50 درجة مئوية

## خصائص المنتج

### خصائص المنتج

أرقام خصائص المنتج الموضحة تشير إلى صور المفك/الدريل على صفحة الرسومات.

1. قابض لقم بدون مفتاح

2. محدد عزم التدوير

3. مفتاح التحكم في التشغيل/السرعة مع عدد لا يحصى من السرعات

4. مفتاح اتجاه الدوران

5. إضاءة عمل LED

6. البطارية

7. الجلبة الأمامية

8. حامل اللقم المغناطيسي

ز. اتبع جميع تعليمات الشحن، ولا تشنح حزمة البطارية أو الأداة خارج نطاق درجات الحرارة المحدد في التعليمات. قد يؤدي الشحن بشكل غير صحيح أو عند درجات حرارة خارج النطاق المحدد إلى إتلاف البطارية أو زيادة خطير نشوب حريق.

#### الخدمة

أ. إصلاح الأداة لا يتم إلا بواسطة فني متخصص باستخدام قطع الغيار المطابقة فقط.

وهذا يضمن الحفاظ على سلامة الأداة.  
ب. لا تقم بصيانة حزم البطاريات التالفة مطلقاً. لا يجب صيانة حزم البطارية إلا بمعرفة الشركة المصنعة أو مقدمي الخدمة المعتمدين.

#### تعليمات السلامة الخاصة بالآلة

##### تحذيرات السلامة الخاصة بالذريلات والمفكات

###### 1. تعليمات السلامة لجميع العمليات

أ. قم بارتداء واقيات الأذن عند استخدام مثقب يعمل بالطاقة. قد يسبب التعرض للضوضاء فقدان السمع.  
ب. أمسك الأداة الكهربائية باستخدام أسطح الإمساك العازلة، إذ قد يحدث تلامس بين أحد ملحقات التقطيع أو المثبتات والأسلاك المخفية عند تنفيذ عملية ما. فقد يؤدي التلامس بين أحد ملحقات التقطيع أو المثبتات والسلك "المُكهرب" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكشوفة في الأداة الكهربائية "موصلة للكهرباء"، وقد يتسبب في إصابة المشغل بصدمة كهربائية.

###### 2. تعليمات السلامة عند استخدام لقم ثقب طويلة

أ. لا تُشغل على سرعة فائقة أكتر من معدل السرعة القصوى للقمة الثقب. عند السرعات العالية، من المرجح أن تتشتت اللقمة إذا سمح لها بالدوران بحرية دون ملامسة قطعة العمل، ما يتسبب في حدوث إصابة شخصية.  
ب. أبداً دائمًا بالحفر بسرعة مخفضة مع تلامس حافة لقمة الثقب بقطعة العمل. عند السرعات العالية، من المرجح أن تتشتت اللقمة إذا سمح لها بالدوران بحرية دون ملامسة قطعة العمل، ما يتسبب في حدوث إصابة شخصية.

ج. اضغط فقط في خط مباشر مع اللقمة ولا تستخدم القوة الزائدة. وقد تتشتت اللقم مسببة الكسر أو فقدان السيطرة، ما يتسبب في حدوث إصابة شخصية.

استخدم أدوات كشف مناسبة لتحديد ما إذا كانت خطوط المنافع مخفية في منطقة العمل أو اتصل بالشركة التي قامت بتوصيل المنافع للحصول على المساعدة. ملامسة خطوط الكهرباء قد يؤدي إلى حريق وصدمتك كهربائية. الإضرار بخط الغاز يمكن أن يؤدي إلى إنفجار. ثقب مواسير الماء قد يتسبب في أضرار بالممتلكات أو قد يؤدي إلى صدمة كهربائية.

قم بإيقاف تشغيل الأداة الكهربائية فوراً عندما تصبح الأداة مسدودة أو محشورة. كن مستعداً لعزם الدوران العالي الذي قد يتسبب بالإرتداد. تصبح الأداة مسدودة عندما:

- تتعرض الأداة الكهربائية للحمل الزائد
- أو تصبح مثبتة في قطعة العمل.

امسك الآلة بقبضه قوية. يمكن أن تحدث ردة فعل عنيفة في عزم التدوير أثناء ربط وحل المسامير.

قم بتأمين القطعة المراد نشرها. الإمساك بالقطعة بواسطة الملزمة سيكون آمناً أكثر من الإمساك بها باليدي.

احفظ مكان العمل نظيفاً. امتزاج المواد مع بعضها يعتبر خطراً بشكل خاص. البرادة الناتجة عن السبائك الخفيفة يمكن أن تخترق أو تتفجر.

انتظر دائمًا حتى تتوقف الآلة تماماً قبل أن تضعها. يمكن للجزء المدرج من الآلة أن ينحسر ويؤدي إلى فقدان السيطرة على الآلة.

بـ. استخدم معدات الحماية الشخصية. ارتدي دائمًا واقي العين. معدات الحماية مثل قناع الغبار، أحذية السلامة المانعة للإنزلاق، القلنسوة الصلبة، أو واقي الأذن الذي يستخدم في أحوال ملائمة سوف تقلل من تعرضك للإصابات.

جـ. إمنع التشغيل العرضي. تأكد من أن المفتاح في وضعية الإطفاء قبل التوصيل بمصدر الطاقة /أو عبوة البطارия، إيقاط أو حمل الأداة. إن حمل الأداة بينما يكون إصبعك على المفتاح أو توصيل الأداة بالماخذ بينما يكون المفتاح في وضعية التشغيل سيؤدي للحوادث.

دـ. قم بإزالة أي مفتاح تعديل أو مفتاح ربط قبل تشغيل الأداة. مفتاح الربط أو التعديل الذي يترك متصلًا بالجزء الدوار من الأداة قد يؤدي إلى الإصابة الشخصية.

هـ. لا تقترب كثيراً. حافظ على وقوفك وتواربك في جميع الأوقات. وهذا يتيح لك السيطرة بصورة أفضل على الأداة في الحالات الغير متوقعة.

وـ. ارتدي ملابس مناسبة. لا ترتدي ملابس ضفاضة أو سلاسل. حافظ على شعرك وملابسك وقفازاتك بعيدًا عن الأجزاء المتحركة. الملابس الضفاضة والسلال أو الشعر الطويل قد تنحرش في الأجزاء المتحركة.

زـ. إذا تم توفير أجهزة لتوصيل استخراج الغبار ومراقب التجميع، تأكد من أنها متصلة ومستخدمة بشكل صحيح. إن استخدام هذه الأجهزة يمكن أن يقلل من المخاطر المتعلقة بالغبار.

حـ. لا تدع المعرفة المكتسبة من استخدامك المتكرر للأدوات تمنحك الثقة بالنفس وتجعلك تتجاهل مبادئ سلامة الأداة. قد يؤدي الإهمال إلى إصابة خطيرة خلال جزء من الثانية.

#### استخدام الأداة والعناية بها

أـ. لا تستخدم القوة مع الأداة. استخدم الأداة الصحيحة في العمل. الأداة الصحيحة سوف تقوم بالمهام على نحو أفضل وأكثر أماناً للمعدل الذي وضع من أجله.

بـ. لا تستخدم الأداة إذا لم يقم المفتاح بتشغيلها وإطفائها. أي أداة لا يتم التحكم بها بواسطة مفتاح التشغيل تعتبر خطرة ويجب إصلاحها.

جـ. أفضل السلك عن مصدر الطاقة /أو عبوة البطارия قبل إجراء أي تعديلات على الأداة أو تغيير ملحقاتها أو تخزينها. هذه التدابير المتخذة للسلامة تقلل من مخاطر تشغيل الأداة عن طريق الخطأ.

دـ. خزن الأداة عند عدم الإستعمال بعيداً عن متناول الأطفال ولا تسمح لأشخاص ليس لديهم معرفة بالأداة أو بهذه التعليمات أن يقوموا بتشغيل الأداة. الأداة تعتبر خطرة عندما تكون في أيدي مستخدمين غير مدربين.

هـ. حافظ على الأداة. تحقق من عدم وجود اختلال أو تقييد للأجزاء المتحركة، أو كسر في الأجزاء وأي أشياء أخرى يمكن أن تؤثر في تشغيل الأداة. في حالة وجود تلف ما، قم بصيانة الأداة قبل الاستخدام. العديد من الحوادث تحدث نتيجة عدم صيانة الأداة.

وـ. حافظ على أدوات القطع الحادة ونظيفه. أدوات القطع المحفوظة بشكل سليم مع حواط قطع حادة هي أقل عرضة للتقييد ويسهل السيطرة عليها.

زـ. استخدم الأداة، ملحقاتها، لقم الأداة وغيرها، وفقاً لهذه التعليمات وبالطريقة المخصصة ل النوعية الأداة.

مع الأخذ في الاعتبار ظروف العمل والعمل الذي يتوجب إنجازه. إن استخدام الأداة في مهام تختلف عن تلك المصممة لأجلها يمكن أن يؤدي إلى أوضاع خطيرة.

حـ. حافظ على الأيدي والأسطح التي تمسك بها الأداة حادة ونظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. الأيدي والأسطح الزلقة لا تجعلك تمسك الأداة بإحكام وتحكم بأمان عليها في المواقف غير المتوقعة.

#### استخدام بطارية الأداة والعناية بها

أـ. استخدم فقط الشاحن المحدد من قبل الشركة المصنعة. إن الشاحن الذي يكون ملائماً لنوع واحد من البطارير قد يؤدي إلى حدوث حريق عندما يستخدم مع بطارية أخرى.

بـ. استخدم الأداة مع عبوة البطارير المحددة له فقط. إن استخدام أي عبوة بطاريات أخرى قد يؤدي إلى خطر الإصابة والحرق.

جـ. عندما لا تكون عبوة البطارير قيد الاستعمال، أنبئها بعيداً عن الأجسام المعدنية الأخرى، مثل الدبابيس الورقية والنقود المعدنية والمفاتيح والمسامير والبراغي أو غيرها من الأجسام المعدنية الصغيرة التي يمكنها التوصيل من محطة إلى أخرى. توصيل محطات البطارير معاً قد يعرضك للسع أو يسبب حريق.

دـ. في ظل ظروف التشغيل السيئة، قد تخرج سوائل من البطارير: تجنب ملامستها. إذا حدث ملامسة بشكل عرضي، أغسل المكان بالماء. إذا لامس السائل العين، بالإضافة إلى غسلها بالماء قم باستشارة الطبيب. السوائل التي تخرج من البطارير قد تسبب تهيجاً أو حروقاً.

هـ. لا تستخدم حزمة البطاريات أو أدوات متضررة أو معدلة. قد تظهر البطاريات المتضررة أو المعدلة سلوكاً غير متوقع، الأمر الذي يؤدي إلى الحرائق أو الانفجار أو خطر الإصابة.

وـ. لا تُعرض حزمة البطارير أو الأداة للحرق أو درجات الحرارة المفرطة. قد يسبب التعرض للحرق أو الحرارة فوق 130 درجة حرارة مئوية انفجاراً.

الأضرار التي تلحق بالصحة الناتجة عن الاهتزازات في حالة استخدام أداة الطاقة لفترة زمنية أطول أو عدم التعامل معها وصيانتها بشكل صحيح.



**تحذير!** تتحمّل أداء الطاقة هذه مجازاً كهرومغناطيسيًا في أثناء التشغيل. وفي بعض الظروف، قد يتداخل هذا المجال مع الفرسات الطبية النشطة أو السليمة. لتقليل مخاطر الإصابة الخطيرة أو المميتة، نوصي الأشخاص الذين لديهم عدسات طبية باستشارة طبيهم والشركة المصنعة لغرسات الطبية قبل تشغيل هذا الجهاز.

**الجميع**  
قبل البدء في أي عمل على الآلة (مثل الصيانة، تغيير الأداة وغيرها) ولا سيما أثناء النقل والتخزين، اجعل وضعية مفتاح اتجاه الدوران في المنتصف. التشغيل الغير مقصود لمفتاح التحكم يؤدي إلى وقوع اصابات.

**شحن المفك/الدريل**  
يجب قراءة تعليمات السلامة أولاً ثم اتباع تعليمات الشحن.  
قم بتوصيل سلك USB-C على البطارية (صورة 2) (A). قم بتوصيل طرف سلك USB الآخر بشاحن USB أو بمخرج USB يمكن أن يوفر طاقة كافية لشحن المفك/الدريل. عند توصيل البطارية بمصدر الطاقة، ستضيء اللعبات الموجودة في الجزء الخلفي من البطارية للإشارة إلى حالة الشحن:

- ضوء نابض - جار الشحن  
- ضوء ثابت لمدة دققتين / لا يوجد ضوء - اكتمل الشحن  
تأكد من عدم وجود فجوة أو الثواء حاد في السلك. بعد أن يتم شحن البطارية بالكامل وتظل البطارية متصلة بمصدر الطاقة، ستظل المبتان مضيئاً لمدة دققتين ثم تنطفئ. عند اكمال الشحن، افصل سلك الشحن ثم أدرج البطارية في المفك / الدريل. المفك / الدريل جاهزاً للاستخدام الآن. عندما لا يكون المفك / الدريل قيد الاستخدام، أفصل البطارية عن المفك / الدريل وقم ب تخزينها في مكان مناسب. تحت ظروف الإستخدام العادي يمكن إعادة شحن المفك بعدة مرات من المرات.

**انتبه!** عملية الشحن تولد حرارة في البطارية. من غير المستحسن إعادة شحن البطارية في درجات حرارة دون الصفر. سوف تفقد البطارية شحنها تدريجياً بعد فترة من الوقت، حتى إذا لم تستخدم الجهاز.

**فحص حالة الطاقة في البطارية**  
يمكنك التتحقق من حالة طاقة البطارية عن طريق الضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من البطارية. سوف تضيء اللعبات للإشارة إلى حالة الطاقة المتبقية:  
- لمبات مضيئة - شحن كامل  
- لمبات مضيئات - شحن متوسط  
- لمبة واحدة مضيئة - شحن منخفض  
بعد فترة وجيزة، سوف تنطفئ اللعبات.

**ملحوظة:** البطارية المرفقة مع المفك/الدريل قد تم شحنها بهدف اختبارها فقط ويجب شحنها بالكامل قبل الاستعمال لأول مرة.

صمم مفك/دريل TRIXIG وبطارية TRIXIG ليتم استخدامهما معاً.  
لا تستخدم مطلقاً هذه البطارية لتشغيل أجهزة لاسلكية من نوعيات أخرى.

بطارية الليثيوم أيون محمية ضد التفريغ العميق تقنية "حماية الخلية الإلكترونية (ECP)". عندما تكون البطارية فارغة، يتم إطفاء الآلة بواسطة الدائرة الواقية: الأداة المدرجة لن تعود تدور.

**تجنب التشغيل الغير مقصود.** تأكد من أن مفتاح التحكم مطفأ قبل إدراج عبوة البطارية. إن حمل الأداة بينما تكون أصبعك على مفتاح التحكم أو إدراج عبوة البطارية في الأداة بينما يكون مفتاحها في وضعية التشغيل يؤدي إلى وقوع حوادث.

## تحذيرات السلامة الخاصة بشاحنات البطارية



للإستخدامات الداخلية فقط.

**بعد شاحن البطارية عن المطر أو الرطوبة.** تغلغل المياه في شاحن البطارية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تشحن بطاريات أخرى. شاحن البطارية لا يصلح إلا لشحن البطاريات التي تم توفيرها مع الأداة. وإلا فسيكون هناك خطر الحرائق والانفجار.

**حافظ على نظافة شاحن البطارية.** التلوث يمكن أن يؤدي إلى خطر حدوث صدمة كهربائية.

قبل الاستعمال في كل مرة، افحص شاحن البطارية والسلك والمقبس. إذا تم الكشف عن ضرر، لا تستخدم شاحن البطارية. لا تقم أبداً بفتح شاحن البطارية بنفسك. دع الإصلاحات ليقوم بها فني مؤهل فقط. شاحنات البطاريات التالفة، والأسلاك والمقابس التالفة تزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.

**لا تشغّل شاحن البطارية على أسطح قابلة للإشتعال (على سبيل المثال، ورق، منسوجات، وغيرها) أو توجدها في مناطق محيبة بها.** يمكن لحرارة شاحن البطارية أثناء عملية الشحن أن تشكل خطراً بحدوث حريق.

## معلومات عن الاهتزاز والضوضاء

### مستوى الاهتزاز والضوضاء

تم قياس مستوى إصدار الاهتزاز والضوضاء المنصوص عليه في دليل التعليمات هذا وفقاً لاختبار القياسي لمعيار EN 62841 ويمكن استخدامه لمقارنة أداة بأخرى وبوصفه تقريباً أولياً للتعرض لاهتزاز والضوضاء عند استخدام الأداة في التطبيقات الواردة في هذا الدليل. ومع ذلك، قد يؤدي استخدام الأداة في تطبيقات مختلفة أو مع ملحقات مختلفة أو صيانتها ضعيفة إلى زيادة مستوى التعرض بشكل كبير.

ويجب أن يراعي مستوى التعرض لاهتزاز والضوضاء الأوقات التي يتم فيها إيقاف تشغيل الأداة أو الأوقات التي يتم فيها تشغيلها ولكنها لا تستخدم، إذ قد يتسبب ذلك في تقليل مستوى التعرض بشكل كبير خلال إجمالي فترة العمل. أحم نفسك من تأثيرات الاهتزازات والضوضاء من خلال الحفاظ على الأداة وملحقاتها والحفاظ على دفعه يديك وتنظيم عملك.

### مخاطر أخرى

حتى عند استخدام الأداة الكهربائية على النحو المنصوص عليه، لا يمكن التخلص من جميع عوامل الخطر الأخرى. قد تنشأ المخاطر التالية نتيجة أمور تتعلق بصنع أداة الطاقة وتصميمها:



تلف الرئتين في حالة عدم ارتداء قناع الغبار الفعال.



تلف السمع في حالة عدم ارتداء واقيات السمع الفعالة.

## الصيانة والنظافة

حافظ على المفك/الدريل نظيفاً وجافاً في جميع الأوقات لضمان التشغيل السليم والأمن. امسح أي مخلفات باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء. لا تستخدم أي مواد تنظيف أو مذيبات.

للعمل بشكل آمن وسلامي، حافظ دائمًا على نظافة الجهاز وفتحات التهوية.

هذا المنتج مخصص للاستخدام المنزلي فقط، وليس للقياسات التجارية أو الدقيقة التي يقوم بها المتخصصون.

احتفظ بهذا الدليل لاستخدامه مستقبلاً.

الشركة المصنعة: شركة IKEA السويدية المحدودة

العنوان: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN



لا تُعد البطاريات والبطاريات القابلة لإعادة الشحن نفايات منزليّة! بصفتك مستهلكًا، يتعين عليك بموجب القانون التخلص من جميع البطاريات والمراكم، سواء كانت تحتوي على مواد ضارة \* أم لا، في نقطة تجميع في بلدتك/ منطقتك أو عبر كيان تجاري يقدم التخلص من البطاريات بحيث يمكن التخلص منها بطريقة سليمة بيئيًّا.  
\* مميزة بـ Cd = الكادميوم، Hg = الرّزق، Pb = الرصاص



الرمز الذي يُظهر حاوية نفايات مشطوبة يشير إلى أنه يجب التخلص من المنتج بشكل منفصل عن النفايات المنزليّة. ينبغي تسليم هذا المنتج لإعادة تدويره وفقاً لأنظمة البيئة المحليّة للتخلص من النفايات. من خالل قيامك بفصل منتج يحمل هذه العلامة من النفايات المنزليّة، فسوف تساعدين على تقليل حجم النفايات التي ترسل إلى المحارق أو تدفن في الأرض وبالتالي تقليل من أي تأثير سلبي محتمل على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال على معرض ايكيا.



**تحذير لا تستمرة في الضغط على مفتاح تشغيل/ إطفاء بعد أن تتوقف الآلة تلقائياً.** يمكن البطارية قد تتلف.



**تحذير! أعد شحن البطارية على سطح غير قابلة للاشتعال.** لا تقم بإعادة شحن البطارية لأكثر من ثمان ساعات.

## تعليمات الإستخدام

### استخدام الأداة

**ملاحظة:** من الممكن رؤية شرر من خلال فتحات غطاء المحرك أثناء التشغيل. الشرر يعتبر تفاعل طبيعي لمحرك أثناء استعماله ويحدث نتيجة لحركة العناصر داخل المحرك مع بعضها البعض، وهذا لا يؤثر على أداء الآلة. ومع ذلك نحن نوصي بعدم استخدام الآلة بالقرب من أي سوائل، غازات أو مخلفات قبلة للاشتعال.

### قاضن لقم بدون مفتاح

الدريل مزود بقابض لقم بدون مفتاح حتى يتسمى لك ربط أو فك لقم الدريل بسهولة. امسك الجلبة الأمامية واضغط على مفتاح التحكم في السرعة / الزناد لفتح / إغلاق قابض اللقم.

### تركيب اللقم في الدريل واستخدامه

قبل البدء في أي عمل على الآلة (مثل الصيانة، تغيير الأداة وغيرها) ولا سيما أثناء النقل والتخزين، أجعل وضعية مفتاح اتجاه الدوران في المنتصف. التشغيل الغير مقصود لمفتاح التحكم يؤدي إلى وقوع اصابات. قم بتدوير الجلبة الأمامية لتعديل قابض اللقم حتى تكون فتحة القابض أكبر قليلاً من جذع لقمة الدريل/المفك التي ترغب باستخدامها. أدخل لقمة الدريل/المفك في قابض اللقم. أحكم ربط القابض مع الدريل/المفك كما هو موضح أعلاه في (قابض لقم بدون مفتاح).

### التحكم في سرعة الجذع

من الممكن ضبط سرعتي الجذع من صفر إلى السرعة القصوى بتعديل قوة الضغط على مفتاح التحكم في التشغيل. وهذا يتيح لك اختيار السرعة المتألية للمهمة التي يتم تنفيذها.

### تغيير اتجاه الدوران

يمكنك تغيير اتجاه الدوران بواسطة مفتاح اتجاه الدوران (4). لغلق المفتاح، يوضع المحدد في المنتصف بين خياري اليمين واليسار.

### تعديل مدة الريط

ضع محدد عزم التدوير (2). على الوضعية المطلوبة. تستخدم الأوضاع من 1-19 لربط/فك المسامير (كلما كان الرقم أكبر كلما طالت مدة الريط). اختر رمز الدريل قبل استخدام الأداة للثقب.

### حامل اللقم المغناطيسي

يمكنك وضع اللقم والريش المستخدمة حالياً على حامل اللقم المغناطيسي (8). أعلى المفك/الدريل لإيقائهما في متناول اليد أثناء عملك.

### إضاءة عمل LED

يحتوي المفك على إضاءة عمل LED مدمجة لإضاءة منطقة العمل. تضيء لمبة LED في كل مرة يتم فيها الضغط على مفتاح الزناد ثم تطفئ عند تحرير مفتاح الزناد.

### تحذير: مخاطر انحباس

لا تمسك الجلبة الأمامية لقابض اللقم بيد واحدة في نفس الوقت الذي تقوم بفتح أو قفل فك القابض بمساعدة محرك الدريل.

# ໄກ

ສ່ວນໄບຄວງ TRIXIG/ກົດັກສັກ ລີເຮັດມອອນ 12 ໂບລຕ

ຂ້ອມູລຈຳເພາະກາງເທິກັນີກ ສ່ວນໄບຄວງ

ຮຸບ: TRIXIG/ກົດັກສັກ

ປະເທດ: P2202

ແຮງດັນໄຟຟ້າໃຫ້ຈານປົກຕົງ: 10.8 ໂບລຕ (ກະແສດຮງ)

ແຮງດັນໄຟຟ້າພົກຕົງ: 12 ໂບລຕ (ກະແສດຮງ)

ປະເທດແບຕເຕອຣີ: 1.5 Ah ລີເກີຍມອອນ

ເວລາໃນການຈາງ:

ໄກໃຊ້ກະແສໄຟ 5.0V 1.0A ຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈາງໃນເກີນ 360 ບາດ

ໄກໃຊ້ກະແສໄຟ 5.0V 2.0A ຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈາງໃນເກີນ 210 ບາດ

ໄກໃຊ້ກະແສໄຟ 5.0V 3.0A ຈະໃຊ້ເວລາໃນການຈາງໃນເກີນ 150 ບາດ

ຂາດກັບອັດອກ: 0.8 - 10 mm (1/32ບັບ-3/8ບັບ)

ແຮງບັດປັບໄດ້: 19 + ສ່ວນເຈະ

ແຮງບັດສູງສຸດ: ປະບານ 16 Nm

ຄວາມເຮົວສູງສຸດຂະນະ: ມູນເປົ້າ: 900/min

ອຸກບັດກັບອັດອກໄບຄວງ: 6.35 ບບ. (1/4 ບັບ)

ນ້ຳໜັກ: 1.035 ກກ. ໂດຍປະບານ (2.282 lbs) (ເລີພະສ່ວນ+ຊຸດແບຕເຕອຣີເກົ່ານັ້ນ)

ການສັນສະເກືອນ (ຕາມມາດຮູານ EN 62841-1, EN 62841-2-1):

ເພື່ອຈຳໄລະ:

ຕໍ່າກວ່າ  $a_{h,D} = 1.1 \text{ m/s}^2$ ,  $K=1.5 \text{ m/s}^2$

ຮະດັບເສີຍງ (ຕາມມາດຮູານ EN 62841-1):

ແຮງດັນເສີຍງ  $L_{pA} = 72 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{pA} = 5 \text{ dB (A)}$

ກໍາລັງເສີຍງ  $L_{wA} = 80 \text{ dB (A)}$ ,  $K_{wA} = 5 \text{ dB (A)}$

ຂ້ອມູລຈຳເພາະກາງເທິກັນີກ ຊຸດແບຕເຕອຣີ

ປະເທດ: ICBL 10.8-16-USBC-P1

ຄວາມຈຸ: 1.5Ah ລີເກີຍມອອນ, 16,2Wh

ກໍາລັງໄຟຟ້າຂ້າງ: 5.0 Vdc / 1.0-3.0A (USB-C)

ມາພັດທະນະແບຕເຕອຣີລີເຮັດມອອນແບບຈາງໃໄຟໄດ້

(ແບຕເຕອຣີລີເຮັດມອອນ INR19/66 ຈຳນວນ 3 ກ້ອນເຊື່ອນຕ່ອງກັນແບບອຸກຮຽນ)

ໃຊ້ກາຍໃນອາຄາມເກົ່ານັ້ນ

ອັດຕາການຈາງທີ່ແບະນຳ:

5.0 ໂບລຕ (ກະແສດຮງ) / 1.0-3.0 ແອມແປຣ (type C), ອຸນຫຼຸມການຈາງ 0-50°C

ສ່ວນປະກອບຂອງສຶນຄ້າ

ສ່ວນປະກອບດ້າງໆ ຮະບູໝາຍເລີກຕານທີ່ແສດງໃນກາຟໄບຄວງ/ສ່ວນ

1. ຜັບອັດອກແບບໄມ້ໃຊ້ຈຳປ່າ

2. ຜັບປັບຄໍາແຮງບັດ

3. ໄກສ່ວນ/ສົວົດຄວບຄຸນຄວາມເຮົວ

4. ສົວົດເປັນເປົ້າກົດກັບຄວາມກົດ

5. ໄຟ LED ສ້າກັບກຳຈານ

6. ແບຕເຕອຣີ

7. ປລອກສ່ວນ

8. ຜັບອັດອກໄບຄວງແມ່່ເໜີກ

ຂ້ອຄວຣະວັງ!

ສ່າຍ USB-C ແລະ ທີ່ຈາງ USB ຈະໄປຮວນອູ່ໃນຊຸດອຸປກຮົມ ມີໜ່ອງເກື້ບຂອງເສັບມືນດ້ານໃນກໍລ່ອງສ່ວນໄບຄວງສໍາເກັບໄລ່ຊຸດແບຕ

ເຕອຣີ TRIXIG/ກົດັກສັກ ເສຣິນ

## ຂອບເຂດຕາກໃຫ້ຈານ

ໃຫ້ຄວງ/ສ່ວນໄຮ້ສາຍນີ້ໃຫ້ສໍາຮັບງານເຈາະໄຟ ພລາສຕົກ ວັດໂລເຂະໜ່ອນ ແລະບັນ/ຄລາຍສຄຣູ ໄນເຄີຍໄດ້ບຸກຄອດ (ຮຽນທີ່ເກີດເສີກ) ກ່າວມສກພ່າງກາຍໃໝ່ແລ້ງແຮງຮອດສກພົມຕິໃຈໄປ່ປົກຕິ ຮົວຢາດປະສບກາຮນີ້ແລະຄວາມຮູ້ ຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈນໍາເຄີຍນີ້ໄປໃຊ້ ເວັບແຕ່ຈະວູ້ໃນການຄວບຄຸມດູແລ້ຮອດໄດ້ຮັບຄ໏າແນະນຳໃນການໃຫ້ຈານໂດຍຜູ້ກໍ່ຮັບຜິດຂອບໃນດ້ານ ຄວາມປິດຕືກ

ເສີກເລີກຄວາມໄດ້ຮັບການດູແລ້ເພື່ອປັບປຸງກັນໄປໃກ້ເຄີຍເຄື່ອງນີ້ໄປເລີນ

## ຂ້ອປົງປົດຕົກກໍ່ໄປເພື່ອຄວາມປິດຕືກ

### ຄໍາແນະນຳກໍ່ໄປເພື່ອຄວາມປິດຕືກ



**ຄໍາເຕືອນ!** ອ່ານຄໍາເຕືອນ ຄໍາແນະນຳ ກາພປະກອບ ແລະຂ້ອນມູນຈໍາເພາະກໍທີ່ເກີຍຂ້ອງກັບຄວາມປິດຕືກກັ້ນໜັດກໍທີ່ໃຫ້ນາ ພຮັດນັບເກື່ອງນີ້ໄຟຟ້ານີ້ ມາກັນໄປປົງປົດຕາມຄໍາແນະນຳກໍ່ໜັດກໍທີ່ຮະບູໄວ້ດ້ານລ່າງຈາກສ່າງພລໄກເກີດໄຟຟ້າດູດ ໄຟໃໝ່ນີ້ ແລະ/ ຮົວຢາດໄດ້ຮັບບາດເຈີບຮ້າຍແຮງໄດ້

ເກີບຄໍາເຕືອນແລະຄໍາແນະນຳກໍ່ໜັດເຈານໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຈ້າງອີງໃນອນນາຄົດ

ຄໍາວ່າ "ເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າ" ໃນຄໍາເຕືອນ ຈະໝາຍເຖິງເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າກໍທີ່ກ່າວງານດ້ວຍກະແໄສໄຟຟ້າ (ມີສາຍ) ຮົວຢາດເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າກໍ ກ່າວງານດ້ວຍແບຕເຕອຮ່ (ໄຮສາຍ)

### ຄວາມປິດຕືກໃນກໍ່ທີ່ກ່າວງານ

- ຮັບຄວາມສ່ວນອົງຫຼືກໍທີ່ກ່າວງານ ແລະຈັດໄທມີແສງສ່ວນເພື່ອພອດ ກໍທີ່ກ່າວງານທີ່ມີດ ຮກຮູງຮັງຮົວຢາດໄປ່ເປັນຮະເບຍບສາມາຮດ ກ່ອໄຟເກີດອົບຕໍ່ເຫດໄຟເງົ່າ
- ທ້ານໃຫ້ເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າໃນສກພວດລ້ວນກໍຈ່າຍເກີດຮະເບີດໄດ້ ເຊັ່ນ ໃນກໍທີ່ມີຂອງຫ່ວງໄວ້ໄຟ ກໍາສັນ ຮົວຢາດຝູ້ລະອອງໃນບົຣິເວນນັ້ນຕິດໄຟແລະຊຸກໄໝ້ນີ້ເປັນໄດ້
- ຂໍ້ມູນໃຫ້ເຄື່ອງນີ້ ຄວາມໃຫ້ເຕັກແລະບຸກຄລອ້ອນໜູ້ນອກບົຣິເວນກໍປົງປົດຕາມ ການເສີຍສາມາຮັບກໍຈ່າຍ ຈຳກ່ອໄຟເກີດ ອຸບຕີເຫດໄດ້

### ຄວາມປິດຕືກໃນການໃຫ້ເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າ

- ປັບຄວາມເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າດ້ວຍໃກ້ກັບເຕົາຮັບກໍທີ່ເຫັນກັນໄດ້ ກ້າວນດັດແປລອງແກ້ໄຂປັກໃໝ່ວ່າດ້ວຍວິທີໃດ ກ້າວນໃຫ້ຈະແລ້ປ່ອຕົວດ່ວຍກໍ່ທີ່ກ່າວງານໄຟຟ້າກໍໄຟເກີດໄຟຟ້າດູດ
- ແລັກສິ່ງກາຮັນພື້ນກົບພື້ນຜົວກໍທີ່ກ່າວນໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າດູດໄຟເງົ່າ ເຊັ່ນ ກ່ອນເກີດທີ່ກ່າວງານຮ້ອນ ເຕາ ແລະຖຸ້ຍືນ ເພົະນີ້ເມື່ອ ລ້າກາຍຮູ້ອວຍະສັນພັກພື້ນຜົວກໍທີ່ກ່າວນໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າໄຫດຄຽງງາງຈົບ ແລະເກີດໄຟຟ້າດູດໄຟເງົ່າ
- ເກີບເຄື່ອງນີ້ອ່າຍ່າໄຟເປັກຟັນຮ້ອຍ່ອື່ນສກພເປົຍກົບ ຄ້າບ້າເຫັນເຄື່ອງຈະຢືນຢັນ ຈະຢືນຢັນໃຫ້ມີຄວາມເສີຍສູງກໍຈະຖຸກໄຟຟ້າດູດ
- ໃຫ້ສາຍໄຟຍ່າງດູກຕ້ອງ ກ້າວນທີ່ເກີດໄຟຟ້າດູດ ເກີບສາຍໄຟໄຟເປັນກາງຄວາມຮ້ອນ ບ້າບັນ ຂອງນັກມົນ ຮົວຢາດເຄື່ອງຈັກກໍທີ່ກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນໄຫດຄຽງງາງຈົບ ແລະກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນໄຫດຄຽງງາງຈົບ
- ເນື້ອນຳເຄື່ອງນີ້ໄຟຟ້າໃຫ້ບັນຫາຮັບກໍທີ່ກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນແຈ້ງ ໃຫ້ເລັກໃຫ້ສາຍຕ່ອງພົວກໍທີ່ກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນໃຫ້ຈັບກາຍນອກ ເພື່ອລັດຄວາມເສີຍຂອງການເກີດໄຟຟ້າດູດ ອຸນທຶນທີ່ໃຫ້ເປັກໂກຮ່ອງປົງກັນໄຟຟ້າໄຟຟ້າດູດ (residual circuit breaker device)
- ໄຟແນະນຳໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າດູດໄຟເງົ່າ ແລະກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນ ແຕ່ກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນໄຫດຄຽງງາງຈົບ ເພື່ອປັບປຸງກັນໄຟຟ້າດູດ

### ຄວາມປິດຕືກສ່ວນບຸກຄອດ

- ດ້ວຍນິສຕິແລະຕົ້ນຕໍ່ວ່າດູແລ້ວເສັນ ກ້າວນລະສາຍຕາງຈາກງານທີ່ກ່າວ ກ້າວນໃຫ້ເຄື່ອງນີ້ມີອະນຸຮັບກໍ່ສັກເກີດເຫັນວ່າ ອ່ອນເພີ້ຍ ນັບແນະຮັບກໍຈ່າຍ ເກີດໄຟຟ້າດູດໄຟເງົ່າ
- ໃຫ້ອຸປະກຣນີ້ເພື່ອຄວາມປິດຕືກໃຫ້ເໝາະກໍກັບງານທີ່ກ່າວ ເຊັ່ນ ບ້າກາກກັບຜູ້ບັນ ຮອງເກົ່າແລະໜັກນິບົຣັກ ກໍ່ອຸດຫຼຸ ແລະສົນ ແວ່ນຕານີ້ຮັບກໍຕໍ່ລວດເລາກ່າທີ່ໃຫ້ເຄື່ອງນີ້
- ກ່ອນເສີຍປັກ ຕຽວດູວ່າສົວຕົວທີ່ເຄື່ອງປົດຍູ້ ເພື່ອປັບປຸງກັນການຄດປັບປຸງໄປດ້ໂດຍໄປ່ຕົ້ງໃຈ ການຄົວເຄື່ອງນີ້ໄດ້ຢັ້ງຈຳວ່າໄຟຟ້າດູດໄຟເງົ່າ
- ຄອດປະເຈດຮັບກໍຈ່າປານັ້ນອອກກ່ອນເປີດໃຫ້ເຄື່ອງນີ້ ການປ່ອຍຈຳປາຕົດໄວ້ກັບເຄື່ອງນີ້ທີ່ກ່າວງານຮູ້ອວຍະສັນໄຫດຄຽງງາງຈົບ

5. ขณะใช้เครื่องมือ อุ่นเย็นเบร์ เพื่ออาทำให้เสี้ยหลักได้ถ้า ควรยืนเต็ม เก้าให้คบัดและกรงตัวได้ถ้า หากเกิดสถาบันกรณ์ที่ไม่คาดคิด ก็ยังสามารถควบคุมเครื่องมือได้
6. แต่งกายให้เหมาะสม ห้ามสวมเครื่องแต่งกายที่หลวบหรือรุ่นร้าน ถ้าพบว่าควบคุมง่ายให้หมด ระวังผู้ คนเครื่องแต่งกายหรืออุดมีอุปกรณ์ดังข้างต้นไปในเครื่อง
7. ถ้ามีอุปกรณ์เสริมที่ใช้ถูกต้องให้มาด้วย ต้องต่ออุปกรณ์นั้นเข้ากับเครื่องมือให้ถูกต้อง การใช้อุปกรณ์นี้ จะช่วยลดอันตรายจากผู้บุคลากร
8. อุ่นให้ความเชี่ยวชาญการใช้อุปกรณ์ป้องกันครั้งท่าให้ผู้ใช้งานจะล่าใจและไปปฏิบัติตามคำแนะนำความปลอดภัย การกระทำที่ขาดความระมัดระวังเพียงไปเลี้ยววิวาก็อาจนำไปสู่การบาดเจ็บร้ายแรงได้

#### การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

1. อุ่นให้เครื่องมือคิดประภาก เลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับลักษณะงานที่ทำ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพื่อให้ได้ข้อบันทึกที่มีคุณภาพตามต้องการ
2. ห้ามใช้เครื่องมือ หากสวิตซ์เปิดปิดเสียหายไม่เป็นปกติ ต้องส่งซ่อมกับที่ การฝึกใช้งานต่อถ้าให้เกิดอันตรายได้
3. ถอนปลั๊กไฟออกทุกครั้ง ก่อนปรับค่าใดๆ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่อง และถอนปลั๊กออกก่อนเก็บเครื่องมือเพื่อป้องกันการเบิดเครื่องโดยไม่ตั้งใจ
4. เมื่อไม่ใช้งาน ควรเก็บเครื่องมือให้พ้นมือเด็ก และห้ามผู้ไม่ชำนาญหรือไม่ทราบวิธีใช้ ใช้เครื่องมือนี้เด็ดขาด เพราะจะก่อให้เกิดอันตรายได้โดยไม่ตั้งใจ
5. เก็บรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีเสมอเพื่อให้ได้ใช้งานได้เป็นปกติ ตรวจสอบว่าขึ้นส่วนต่างๆ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตกหักเสียหาย หรืออยู่ในสภาพที่อาจส่งผลต่อการใช้งาน ถ้าพบการชำรุดเสียหาย ให้ส่งซ่อมก่อนนำไปใช้ อุบัติเหตุหากครั้งเดียวจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้เก็บรักษาและดูแลอย่างเหมาะสม
6. ควรรักษาอุปกรณ์ติด (ใบเลื่อยหรือดอกสว่าน) ให้ครบและสะอาดอยู่เสมอ การเก็บรักษาอย่างถูกวิธีจะช่วยให้อุปกรณ์ติดมีความคงทน ควบคุมได้ถูกต้อง และลดปัญหาการขัดข้องหรือติดอยู่กับข้อบันทึก
7. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า ดอกไขควง และอุปกรณ์เสริมต่างๆ อุ่นเย็นก่อนใช้งาน สภาพแวดล้อมการทำงานที่ระบุไว้ในคู่มือค้าแนะนํา โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานของเครื่องมือนั้น สภาพแวดล้อมการทำงานและลักษณะงานที่ทำ การใช้งานผิดวัตถุประสงค์อาจก่อให้เกิดอันตรายได้
8. ดำเนินงานและล้วนล้างๆ ที่ต้องใช้มืออ่อนโยน: ใช้งานอุปกรณ์ต้องแห้งอยู่เสมอและไม่มีคราบนำไปบันหรือคราบเขื่อน หากพื้นผิวของส่วนต่างๆ ล้างล้างสิ่งที่อาจสกปรกอยู่ เช่น ถ้าให้ใช้งานอุปกรณ์ไม่ได้ไปปลดกัยและไปล้างทำความสะอาดกับอุปกรณ์ไม่ได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน

#### การใช้งานและการดูแลรักษาเครื่องมือที่ใช้แบบเตอร์

1. ใช้เฉพาะที่ชาร์จที่ผู้ผลิตระบุให้ใช้กับเครื่องมือนิดนั้น การใช้ที่ชาร์จที่ไม่ใช่ของเครื่องมือนั้นอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
2. ใช้เครื่องมือกับแบบเตอร์หรือบิดที่ถูกต้อง การใช้แบบเตอร์ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดไฟไหม้อาการบาดเจ็บได้
3. เมื่อไม่ใช้แบบเตอร์ ให้เก็บแบบเตอร์ให้ห่างจากวัสดุอันที่เป็นโลหะ เช่น คอล์บบีบกระดาษ เหรียญ ถุงเงิน สกุล หรือโลหะเดิมๆ ที่อาจสัมผัสเข้ากับแบบเตอร์ จนทำให้เกิดการลัดวงจรของขั้วแบบเตอร์ เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ได้
4. การใช้งานไม่เกิดต้องอาจทำให้แบบเตอร์เสีย ห้ามสับผัสเข้ากับแบบเตอร์และของเหลวใน หากของเหลวคือหิน ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและปั๊มน้ำ ถ้าหากหินติดอยู่บนแบบเตอร์ ให้รีบไปพบแพทย์ ของเหลวที่เข้มองคากับแบบเตอร์ อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังหรือเกิดแพ้ไฟไหม้ได้
5. อุ่นให้แบบเตอร์หรือเครื่องมือที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงแก้ไข แบบเตอร์ที่ชำรุดหรือถูกดัดแปลงแก้ไขอาจแสดงอาการที่ค่าเต่าไม่ได้ ถ้าให้เกิดไฟไหม้ ระเบิด หรือเสียงต่อการได้รับบาดเจ็บ
6. อุ่นให้แบบเตอร์หรือเครื่องมือสับกับไฟหรืออุณหภูมิก็สูงเกินไป การสับผัสกับไฟหรืออุณหภูมิก็สูงเกิน 130 °C อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
7. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการชาร์จทั้งหมด และอย่าชาร์จแบบเตอร์หรือเครื่องมือเกินกว่า 6 ชั่วโมงหากมีก็จะช่วยให้ลดอุบัติเหตุได้

#### การซ่อมแซม

1. ควรซ่อมโดยช่างซ่อมมืออาชีวานาญ และใช้เฉพาะชิ้นส่วนและอะไหล่ของแท้เท่านั้น เพื่อให้เก็บให้ได้ในความปลอดภัยของเครื่องมือหลังการซ่อม
2. ห้ามซ่อมแบบเตอร์ที่ชำรุด การซ่อมแบบเตอร์ที่ต้องดำเนินการโดยบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตแล้ว เท่านั้น

## ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

### ค่าเตือนเพื่อความปลอดภัย

#### 1. คำแนะนำด้านความปลอดภัยสำหรับการดำเนินการทั้งหมด

- ส่วนอุปกรณ์ป้องกันภัยเบื้องต้น เช่น การได้รับเสียงดัง ๆ อาจทำให้สูญเสียการได้ยินได้
- จับเครื่องมือไฟฟ้าที่บริเวณมืออ่อนชี้มือบนหัวเมืองงานที่ทำอาจทำให้อุปกรณ์เสริมสำหรับงานตัดหรือตัวยึดไปขึ้นผสานสายไฟที่ซ่อนอยู่ อุปกรณ์เสริมสำหรับงานตัดหรือตัวยึดที่ล้มผสานสายไฟ “มีกระเสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ชื้นส่วนโลหะที่เปิดอยู่ของเครื่องมือไฟฟ้าเกิดการนำไฟฟ้า และอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าดูดได้

#### 2. คำแนะนำด้านความปลอดภัยเบื้องต้นดังที่ระบุไว้

- ห้ามทำงานโดยใช้ความเร็วสูงเกินกว่าขัดจำกัดความเร็วสูงสุดของอุปกรณ์ เนื่องจากความเร็วสูงขึ้น ดอกสว่านมีแนวโน้มว่าจะเกิดการติดขึ้นได้หากปล่อยให้ดอกสว่านหมุนโดยไม่สัมผัสถักข็บงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้
- เริ่มต้นการเจาะด้วยความเร็วต่ำและปล่อยออกสว่านต้องสัมผัสถักข็บงานเสมอ เนื่องจากความเร็วสูงขึ้น ดอกสว่านมีแนวโน้มว่าจะเกิดการติดขึ้นได้หากปล่อยให้ดอกสว่านหมุนโดยไม่สัมผัสถักข็บงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้
- ใช้แรงกดดึงสว่านในแนวตรงเท่านั้น และอย่าใช้แรงกดดามากเกินไป ดอกสว่านอาจติดขึ้นจับแต่ก่ออุบัติเหตุได้

ใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อหารสายไฟ ท่อแก๊ส หรือท่อประปาที่อาจช้อนอยู่ หรือติดต่อบริษัทที่ให้บริการในพื้นที่มาตรวจสอบให้ เพื่อป้องกันการเจาะถูกสายเหล่านี้ การเจาะถูกสายไฟหรือท่อแก๊สอาจทำให้เกิดไฟไหม้ ถูกไฟดูด หรือเกิดระเบิดจากแก๊สรั่ว และการเจาะถูกท่อประปาอาจทำให้เกิดรอยร้าวเสียหายหรืออาจทำให้ถูกไฟดูดได้

ปิดสวิตช์เครื่องมือไฟฟ้ากันที่เครื่องมือเกิดการติดขัดหรือสะฉุด เตรียมความพร้อมสำหรับการรับกับแรงบิดข้อนกลับในระดับสูงซึ่งอาจทำให้เกิดการติดกลับ เครื่องมือจะเกิดการติดขัดเมื่อ:

- เครื่องมือไฟฟ้าถูกใช้งานมากเกินไป (โอเวอร์โหลด)
- หรือ เครื่องมือติดอยู่ในข็บงาน

จับเครื่องมือให้แน่น เพราจะเครื่องอาจจะบัดขบวนและคลายสกรู

ยึดข็บงานให้มั่น ควรใช้คีบหรือปากกาจับข็บงาน เพราจะได้แน่และปลอดภัยกว่าใช้มือจับ

รักษาพื้นที่ทำงานให้สะอาดอยู่เสมอ การกองวัสดุรอบคันก่อให้เกิดอันตรายได้มาก เช่นฝุ่นอัลลอยอาจติดไฟและระเบิดได้

ให้รองนเครื่องหยุดสนิกก่อนค่อยวางเครื่องลง มีบางสิ่งอาจทำให้ตัดดอกสว่านติด จนควบคุมเครื่องมือไม่ได้

ก่อนใส่แบบเตอร์ ตรวจว่าสวิตช์เครื่องปิดอยู่ เพื่อป้องกันการกดบุ่มเปิดโดยไม่ตั้งใจ การต้องเครื่องมือโดยว่างน้ำไว้บนไกสวิตช์หรือเปิดสวิตช์ค้างไว้ก่อนเสียงปลึกหรือใส่แบบเตอร์ เป็นการประมาทที่ก่อให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้

### ค่าเตือนเพื่อความปลอดภัยในการใช้ที่ชาร์จ



สำหรับใช้งานภายในอาคารเท่านั้น

อย่าให้ที่ชาร์จแบบเตอร์เปียกฝน เปียกน้ำ หรือถูกความชื้น ถ้าที่ชาร์จเปียกจะทำให้ถูกไฟดูดได้มาก

ห้ามใช้ที่ชาร์จที่ชาร์จแบบเตอร์อื่น ที่ชาร์จเหมาสำหรับชาร์จแบบเตอร์ของเครื่องมือเท่านั้น การผันใช้กับแบบเตอร์อื่น อาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือระเบิดได้

เก็บที่ชาร์จให้สะอาดอยู่เสมอ กีชาาร์จที่สักประจุจะทำให้เกิดไฟดูดได้

ก่อนใช้งาน ให้ตั้งเวลาอ่านเสียก่อนที่ชาร์จ สายไฟ และปลั๊กก่อนเสียก่อน ห้ามใช้งานเด็ดขาดหากชำรุด ห้ามแกะซิลล์ส่วนที่ชาร์จเอง เด็ดขาด ให้ส่งซ่อมโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น ที่ชาร์จ สายไฟ และปลั๊กที่ชำรุด ทำให้ผู้ใช้ถูกไฟดูดได้เจ้ายัง

ห้ามชาร์จไฟแบบเตอร์เรบพื้นผิวที่ติดไฟจ่าย เช่น กระดาษ ผ้า ฯลฯ หรือในบริเวณที่ติดไฟจ่าย เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นจะแพร่กระจายไปทั่วทุกส่วน ทำให้เกิดไฟไหม้ได้

### ข้อมูลเกี่ยวกับการสันสะเทือนและเสียง

#### ระดับการสันสะเทือนและเสียง

ระดับของการสันสะเทือนและเสียงที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานนับเป็นการวัดค่าตามการทดสอบซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน EN 62841 ข้อมูลนี้สำหรับการทำให้ใช้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งกับเครื่องมืออันอื่น และใช้เป็นการประเมินขั้นตอนเพื่อให้กราฟถึงระดับการสันสะเทือนและเสียงของใช้เครื่องมือเพื่อกำหนดต้นที่ระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การใช้งานเครื่องมือนี้ในการทำงานที่ต่างจากไป หรือใช้งานร่วมกับอุปกรณ์เสริมที่ต่างจากไปหรืออุปกรณ์เสริมที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างไม่เหมาะสม อาจทำให้ระดับการสันสะเทือนและเสียงเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

การประเมินระดับการสันสะเทือนและเสียงควรพิจารณาถึงเวลาที่ปิดสวิตช์เครื่องมือเอาไว้ หรือเวลาที่เปิดสวิตช์เครื่องมือแต่ไม่ได้บีบการใช้งานบ่อยๆ เช่นกัน เพื่อจากปัจจัยดังกล่าวอาจทำให้ระดับการสันสะเทือนและเสียงลดลงขณะการทำงานที่หันหลังลงอย่างเห็นได้ชัด ป้องกันตัวเองจากผลกระทบของ การสันสะเทือนและเสียงโดยการดูแลรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม ทำให้มีอันตรายจากการสั่นสะเทือน เช่น หัวใจสับสน หายใจลำบาก หัวใจเต้นเร็ว ฯลฯ

#### ความเสี่ยงอัน ๑

แนวโน้มที่มีการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าตามที่กำหนดไว้ แต่การดำเนินการจัดปัจจัยเสี่ยงอัน ๑ ทั้งหมดยังคงไม่สามารถเป็นไปได้ อันตรายดังต่อไปนี้อาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากโครงสร้างและภาระอุปกรณ์ไฟฟ้า ได้แก่



ความเสี่ยหายนะต่อปอดหากไม่ได้สูบหน้ากากกับผู้บุกเบิกประสิทธิภาพ



ความเสี่ยหายนะต่อการได้อัน หากไม่ได้สูบอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพ



ความเสี่ยหายนะต่อสุขภาพที่เกิดจากการสันสะเทือนหากมีการใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าเป็นระยะเวลานานเกินไป หรือไม่ได้บีบการจัดการหรือดูแลรักษาอย่างเหมาะสม



**คำเตือน!** เครื่องมือไฟฟ้านี้จะสร้างสบายน้ำหนักให้กับผู้ใช้งาน ในสถานการณ์บางอย่าง สบายน้ำหนักนี้อาจรบกวนอุปกรณ์การแพทย์ที่ฝังอยู่ในร่างกายทั้งแบบที่ใช้แหล่งพลังงานภายในและการขับเคลื่อน (active medical implants) หรือแบบที่ไม่ใช้แหล่งพลังงานภายในในการขับเคลื่อน (passive medical implants) เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือถึงแก่ชีวิต เราขอแนะนำให้ผู้ที่มีอุปกรณ์การแพทย์ฝังอยู่ในร่างกายทำการปรึกษาแพทย์และปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวก่อนใช้งานเครื่องมือนี้

#### วิธีประกอบ

ก่อนดำเนินการใดๆ กับเครื่องจักร (เช่น บารุงรักษา เปลี่ยนเครื่องมือ ฯลฯ) รวมถึงระหว่างการขับเข้าและจอดเก็บ ให้ตั้งสวิตช์เปลี่ยนกิจกรรมการหับบุนไว้ตรงกลาง การกดไกส์ว่าโน้ตบุ๊กไปได้ดี ใจอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

## การชาร์จแบบเตอร์เรืองแสง/สว่าง

โปรดอ่านค่าແນບ้าด้านความปลอดภัยก่อนดำเนินการชาร์จ

เชื่อมต่อปลายสาย USB-C เข้ากับพอร์ต USB-C บนก้อนแบบเตอร์ (รูปที่ 2) (A) เชื่อมต่อปลายสาย USB อีกด้านเข้า กับที่ชาร์จ USB หรือเติมรับ USB ที่ให้พลังงานเพียงพอสำหรับการชาร์จในครอง/สว่าง ขณะชาร์จแบบเตอร์กับแหล่งจ่ายไฟ LED ก็ได้ตามหลังของแบบเตอร์จะสว่างขึ้นเพื่อระบุสถานะการชาร์จ:

- ไฟ桔:พrib - กำลังชาร์จ
- ไฟติดบน 2 นาฬิกา/ไม่ไฟ - ชาร์จเสร็จแล้ว

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟไม่เป็นหรือจุดหักงอ หลังชาร์จแบบเตอร์เต็มและเบตเตอร์ยังคงเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟ LED ให้ก้อนส่ายๆ หรือสั่นๆ ให้ก้อนส่ายๆ ออก จากนั้นใส่แบบเตอร์กลับเข้าไปในช่องของในครอง/สว่าง ในครอง/สว่างพร้อมใช้งานแล้ว เมื่อไฟได้ใช้งานในครอง/สว่าง ให้ถอนแบบเตอร์ออกจากในครอง/สว่างแล้วเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ ในครองสามารถชาร์จใหม่ได้หลายครั้ง

**ข้อควรระวัง!** การชาร์จทำให้แบบเตอร์มีอุณหภูมิสูงขึ้น หลังเลี้ยงการชาร์จแบบเตอร์ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง เมื่อเวลาผ่านไป แบบเตอร์จะค่อยๆ สูญเสียประจุไฟฟ้า แบนัวจะไปได้ใช้เครื่องมือคิตาม

## การตรวจสอบปริมาณแบบเตอร์ในชุดแบบเตอร์

คุณต้องตรวจสอบปริมาณแบบเตอร์ที่เหลือ: ดูด้วยตา

- ไฟ LED ติด 3 ดวง - แบบเตอร์เต็ม
- ไฟ LED ติด 2 ดวง - แบบเตอร์ปานกลาง
- ไฟ LED ติด 1 ดวง - แบบเตอร์ต่ำ

หลังจากนั้นไม่นาน ไฟ LED จะดับลง

**หมายเหตุ:** แบบเตอร์ที่ให้มาพร้อมในครอง/สว่างได้รับการชาร์จเพื่อทดสอบการใช้งานเบื้องต้น และต้องชาร์จแบบเตอร์ให้เต็มอีกครั้งก่อนใช้งานครั้งแรก

สว่างในครอง TRIXIG/กรีซิก และชุดแบบเตอร์ TRIXIG/กรีซิก ออกแบบให้ใช้ร่วมกับ ห้ามใช้ชุดแบบเตอร์นี้กับเครื่องมือไร้สายจากผู้ผลิตรายอื่น

แบบเตอร์ล็อกเย็บໄล้ออปเปอร์ได้รับการปกป้องจากการประจุลึกโดย "Electronic Cell Protection (ECP)" เมื่อแบบเตอร์หมดไฟ วงจรป้องกันจะปิดเครื่องป้องกัน และเครื่องมือที่ได้รับไฟไม่พบบล็อกต่อไป คำเตือน อย่าถอดสวิตช์เปิด/ปิดหลังจากที่เครื่องปิดโดยอัตโนมัติแล้ว เมื่อจะใช้แบบเตอร์อาจเสียหายได้ คำเตือน! หากแบบเตอร์แบบพื้นผิวที่ไม่ติดไฟ อย่าชาร์จแบบเตอร์นานเกิน 8 ชั่วโมง

## ค่าແນບ้าการใช้งาน

### การใช้งาน

**หมายเหตุ:** ขณะใช้สว่างในครอง อาจเกิดประกายไฟได้เห็นในช่องบօเตอร์ ประกายไฟนี้เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากขั้นส่วนของบօเตอร์สียอดสีกับชนิดใช้งาน ซึ่งไม่เป็นอันตราย ต่อประสาทภาพของสว่างในครอง อย่างไรก็ตาม ไม่ควรใช้สว่างในครอง ใกล้ช่องเหลวไฟ แก๊ส หรือฝุ่น เพราะอาจทำให้ไฟลุกได้

### หัวจับดออกแบบไม่ใช้จำปา

หัวจับดออกสว่างแบบไม่ใช้จำปา ใส่และดัดดออกสว่างและดอกไข่ครองโดยใช้มือขั้น จับปลอกสว่างแล้วกดโกรสว่าง/สวิตช์ควบคุมความเร็วเพื่อเปิด/ปิดหัวจับดออกสว่าง

### การใส่ดอกสว่างและดอกไข่ครอง

ก่อนดำเนินการใดๆ ต้องตรวจสอบ ( เช่น บำรุงรักษา เปรี้ยบเครื่องมือ ฯลฯ ) รวมถึงระหว่างการขับขี่และจอดเก็บ ให้ตั้งสวิตช์เปรี้ยบกับการทำงานของไฟ ตรวจสอบความเสียหายของไฟ กรณีไฟชำรุดโดยไฟได้ต้องให้เจ้าของหัวจับดอกให้เกิดการบาดเจ็บได้ หมุนหัวจับดอกสว่างเพื่อปรับหัวจับดอกให้เข้าช่องขนาดให้ถูกต้องกับไฟในครอง/ดอกสว่างที่ต้องการใช้เล็กน้อย ใส่ดอกไข่ครอง/ดอกสว่างลงไป หมุนหัวจับดอกให้แนบตานาฬิกาที่อิฐภายใต้เข้าด้าน (หัวจับดอกแบบไม่ใช้จำปา)

## การปรับความเร็วรอบหมุน

สามารถปรับความเร็วรอบหมุนแกนคู่จากคุณรีสิ่งความเร็วสูงสุดได้ โดยเพิ่มแรงกดลงบนโถสว่าน ซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกความเร็วที่เหมาะสมสำหรับงานที่กำลังอยู่ได้

## การปรับเก็ติกาทางหมุน

ปรับหมุนเข้าข่ายขาวได้ด้วยสวิตช์ปรับเก็ติกาทางหมุน (4)  
ปรับสวิตช์ให้อ่อนโยนได้มากกว่าเดิมเพื่อสิ่งของสวิตช์

## การปรับแรงบิด

หมุนหัวปรับแรงบิด (2) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ตัวเลข 1-19 ใช้สำหรับการขันหรือคลายสกรู (ตัวเลขยิ่งสูง แรงบิดยิ่งมากขึ้น) เมื่อต้องการใช้สว่าน ให้เลือกรูปดอกสว่าน เพื่อเปลี่ยนจากการขันเป็นการเจาะ

## หัวจับดอกไขควงแม่เหล็ก

เก็บดอกไขควงและสว่านประแจกดต่างๆ ที่กำลังใช้งานไว้บนหัวจับดอกไขควงแม่เหล็ก (8.) บริเวณด้านบนของไขควง/สว่านเพื่อให้หยิบใช้สะดวกขณะทำงาน

## ไฟ LED สำหรับทำงาน

ไขควงมีไฟ LED ในตัวเพื่อให้พื้นที่ทำงานสว่างไสว ไฟ LED จะสว่างขึ้นทุกครั้งที่กดสวิตช์ให้ทำงาน และจะดับลงเมื่อปล่อยสวิตช์

## ค่าเตือน ระวังบอร์เตอร์สว่าน

ขณะบอร์เตอร์หมุน อย่าจับหัวสว่านหรือบริเวณที่ใกล้กับดอกสว่าน เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายและการบาดเจ็บได้

## การดูแลรักษาและทำความสะอาด

เก็บไขควง/สว่านให้สะอาดและแห้งตลอดเวลาเพื่อให้ทำงานได้ตามปกติและปลอดภัย เช็ดสิ่งสกปรกออกโดยใช้ผ้าบุ่มชุบน้ำ ห้ามใช้สารทำความสะอาดหรือตัวกำลังละลายได้

รักษาความสะอาดของเครื่องและช่องระบายอากาศอยู่เสมอ เพื่อการทำงานที่ปกติและปลอดภัย

สีบนคันมือใช้สำหรับการใช้จ้างภายในบ้าน ไม่ได้มีใช้สำหรับการวัดเชิงพาณิชย์หรือการวัดที่ได้รับการรับรองและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ

## เก็บคุ้มหนี้ไว้เพื่อการใช้งานในอนาคต

**ผู้ผลิต: IKEA of Sweden AB**

**ที่อยู่: Box 702, SE-343 81 Älmhult, SWEDEN**



แบบเตอร์และแบบเตอร์แบบชาร์จไฟใหม่ได้ไปใช้ช่วยในครัวเรือน ใบฐานะที่เป็นผู้บริโภค คุณมีหน้ากากตามกฎหมายที่จะต้องนำแบบเตอร์และอุปกรณ์ที่มีเชลล์สะสมไฟฟ้าทิ้งหมด (ไม่ว่าจะเป็นแบบที่มีสารอันตราย\*หรือไม่มีกัน) ไปทิ้งยังจุดรวบรวมในเขตเทศบาล/พื้นที่ใกล้บ้านของคุณ หรือผ่านทางองค์กรธุรกิจที่ให้บริการกำจัดแบบเตอร์ เพื่อที่แบบเตอร์ด่าง ๆ จะถูกกำจัดด้วยวิธีการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

\* หมายถึง: Cd = แคนเดียม, Hg = ปรอต, Pb = ตะกั่ว



ลักษณะนิรภัยป้องขยะถูกกำหนด เป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นต้องแยกกำจัดเมื่อสิ้นอายุใช้งาน ห้ามทิ้งรวมกับขยะอื่นๆ ในบ้าน ควรส่งผลิตภัณฑ์ไปกำจัดหรือใช้เคลื่อนให้ถูกต้องตามข้อกำหนดในแต่ละท้องถิ่น การแยกผลิตภัณฑ์ประจำวันจากขยะอื่นๆ ช่วยลดปริมาณขยะที่จะส่งไปยังโรงไฟฟ้าหรือพื้นที่ฝังกลบ และช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ IKEA







Type Approved  
Safety  
Regular Production  
Surveillance

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 1111263328